

مقاصدِ شریعت اور اسلامی مالیات: مالی معاملات میں ضرورت و حاجت کے فقہی قواعد کا استعمال

محمد ابو بکر صدیق[◎]

تعارف

اسلامی بینکاری کی اشیاء و خدمات کا ڈھانچہ (Structure) اسلامی نصوص، فقہی اصول اور قواعد و ضوابط کی روشنی میں ہی تشكیل پاتا ہے۔ مقاصدِ شریعت کے تحفظ کے لیے اسلام جہاں حلال و حرام، جائز و ناجائز اور شرعی و غیر شرعی احکام کے اصول و قواعد دیتا ہے، وہیں انھی مقاصد کی اہمیت کے پیش نظر رخصت و اباحت کے ضابطے بھی فراہم کرتا ہے جو حالات و واقعات کے تناظر میں کبھی حرام، ناجائز اور غیر شرعی امور میں رخصت کا سبب بنتے ہیں۔ جدید سودی اشیاء و خدمات کا تبادل پیش کرنے کے لیے اسلامی مالیات کے محققین کی جانب سے مقاصدِ شریعت اور اس سے متعلقہ اصول و ضوابط کا کثرت سے استعمال کیا گیا ہے جو کہیں بجا تو کہیں بے جا نظر آتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے اسلامی بینکاری کے نادین^(۱) شکوہ کرتے ہیں کہ اسلامی بینکوں میں مقاصدِ شریعت کی آڑ میں سود اور غرر پر مبنی اشیاء و خدمات کو ضرورت و حاجت کے تحت جائز قرار دیا جا رہا ہے، حالاں کہ وہ اشیاء و خدمات ضرورت و حاجت کے اُس درجے پر ہی نہیں کہ اُن میں رخصت دی جائے۔ اُن کا مزید کہنا یہ ہے کہ جن غیر شرعی امور کے بغیر لوگ زندہ رہ سکتے ہوں اور انھیں کسی قسم کا خطرہ بھی لا حق نہ ہو تو وہاں رخصت کے حصول کے لیے ضرورتِ شرعیہ تحقیق ہی نہیں ہوتی۔ کچھ حضرات تو کہتے ہیں: اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اسلامی بینکاری کی بقا، استحکام اور دوام کے لیے ایسے امور ضرورتِ شرعیہ کے درجے میں ہیں، اس لیے ان امور میں رخصت دی جانی چاہیے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ضرورت صرف اسلامی بینکاری کے ساتھ ہی خاص کیوں ہے؟ حالاں کہ یہی ضرورت سودی بینکاری میں بھی تو تحقیق ہوتی ہے، جس کی بدولت اُس کے بہت سارے امور جائز متصور کیے جانے چاہیں اور اس طرح

لیکچرر، سکول آف اسلامک بینکنگ اینڈ فانس، فلکٹی آف انگریشل انٹری ٹیوٹ آف اسلامک آکنائمس، بین الاقوامی اسلامی

یونیورسٹی اسلام آباد۔ (muhammad.abubakar@iiu.edu.pk)

- ۱ - عبد السلام ابوزید، اشرف واجدی، سرینا حسین، طفیل چھبری، لقمان ذکریا، میدن میرا، احمد کمال اور عبدالرزاق وغیرہم۔

ایک نئے تبادل اسلامی نظام پر وقت اور وسائل صرف کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اسلامی بینکاری سے متعلق موجودہ تحقیقی و تنقیدی لٹریچر کو دیکھتے ہوئے محققین اور ناقدین دونوں میں بظاہر ایک بات قدرے مشترک نظر آتی ہے کہ دونوں طرف ضرورت و حاجت کے مابین پائے جانے والے بنیادی فرق کو کہیں کہیں ملاحظہ نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ انھیں ایک ہی مفہوم تصور کیا گیا ہے۔

اس مقالے میں مقاصدِ شریعت کی روشنی میں اسلامی مالیاتی نظام کی ضرورت و اہمیت کو بیان کرتے ہوئے مقاصدِ شریعت کے تاریخی پس منظر اور ان کی درجہ بندی پر ایک نئے نقطہ نظر سے بحث کی گئی ہے۔ تاہم اس مقالے کا بنیادی مقصد مقاصدِ شریعت کی روشنی میں ضرورت و حاجت سے متعلق فرق کو واضح کرتے ہوئے ان اصول و ضوابط کو بیان کرنا ہے کہ جن کی مدد سے اسلامی بینکاری کے محقق پر یہ واضح ہو جائے کہ مالی معاملات میں ضرورت و حاجت کے قواعد کب، کہاں اور کیسے استعمال ہوتے ہیں؟ کیا یہ قواعد ہر قسم کے حرام، ناجائز اور غیر شرعی امور میں رخصت کا سبب بننے ہیں؟ نیز یہ مستفادہ رخصت دائی یا وقتی کس نوعیت کی ہوتی ہے؟ کیا حاجت کبھی ضرورت کے قائم مقام ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر ہوتی ہے تو کیا وہ ضرورتِ حقیقت کے درجے پر رخصت کا سبب بنتی ہے؟ مقالے کے آخری حصے میں ان قدیم و جدید مالی معاملات کا فقہی تجزیہ بھی کیا گیا ہے جن میں ضرورت و حاجت کے سبب کہیں بجا تو کہیں بے جا رخصت دی گئی ہے۔

ایک تبادل مالی نظام اور مقاصدِ شریعت

اسلام زندگی کے تمام شعبوں میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ شریعتِ اسلامیہ کا بنیادی مقصد انسان کے دین، جان، مال، نسل اور عقل کو محفوظ کرنا ہے۔^(۲) ایک ایسا تبادل مالی نظام و قوت کی اہم ضرورت ہے جو مکمل طور پر شریعتِ اسلامیہ کے اصولوں پر مبنی ہو اور تحفظِ مال کے مقاصدِ شرعی کو پورا کرتا ہو۔ کم و بیش تین صدیوں سے مردوج سودی نظام کا تبادل پیش کرنا اگر ناممکن نہیں تو اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ یہ کام چشمِ زدن میں ہو جائے۔ عصری تقاضوں اور جدید بنیادوں پر کسی نظام کی تدوین ایک تدریجی عمل ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے صرفِ نظر کرنا خود فرمبی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس تدوین کے لیے افراد سازی، متعلقةٰ تعلیمی اداروں کی تشکیل اور متفرق گر شریعت سے ہم آہنگ مالیاتی نظریات اور ماڈلز وغیرہ جیسے اہم امور پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے جس کے لیے ایک خاطر خواہ وقت درکار ہے۔

اسلام کو دیگر شعبہ ہائے زندگی کے ساتھ ساتھ مالیاتی نظام سے متعلق بھی جدید چیلنجز کا سامنا ہے۔ اسلامی بینکاری نظام ایک تبادل نظام کے طور پر متعارف ہوا ہے جس نے جدید مالیاتی تحقیق کے شعبے میں نہ صرف

انقلاب برپا کیا، بلکہ معاشرے کی بظاہر دو باہم مخالف قوتوں یعنی جدید و قدیم علوم کے حامیین کو ایک دوسرے کے قریب لاکھڑا کیا ہے۔ ماضی قریب میں جدید و قدیم علوم کے اہل علم ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اسلامی بینکاری نے ان دونوں اہل علم قوتوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ زمانے کے جدید چیزوں پر مقابلہ باہم مل کر ہی کیا جاسکتا ہے۔ تجارتی و صنعتی انقلاب کی بدولت اقتصادی ایجادات روز بروز جس طرح منظر عام پر آرہی ہیں، اُسی طرح ان سے متعلق شرعی مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ آج بہت سی چیزیں انسانی حاجات کی فہرست میں شامل ہو گئی ہیں جنھیں پورا کرنے کے لیے جدید مالیاتی ادارے نت نئی اشیا و خدمات مہیا کر رہے ہیں۔ انسانی حاجات کی تسلیم شریعت کا ایک اہم مقصد ہے۔ شریعت کے جتنے اوامر و نواعی ہیں سب کے سب کسی نہ کسی طریقے سے مقاصدِ شریعت کی تکمیل اور تحفظ کا ذریعہ ہیں۔ فقہاء ان مقاصد کے ساتھ ساتھ ان مشقّات کا بھی تجویہ کیا ہے جو ان مقاصد کی تکمیل میں پیش آتی ہیں اور پھر ان مشقّات کی شدت کے پیش نظر مقاصد کی درجہ بندی کرتے ہوئے کچھ کو ضرورت تو کچھ کو حاجت قرار دیا ہے، پھر ضرورت و حاجت سے متعلق اصول، قواعد اور ضوابط بھی وضع کر دیے ہیں۔

مقاصدِ شریعت کا تاریخی پس منظر

امام الحرمین جوینی رحمۃ اللہ علیہ (۷۸۵ھ) شافعی اصولیین میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ نے پہلی مرتبہ مقاصدِ شریعت کی اصطلاح استعمال کی تھی اور پہلی دفعہ ایک خاص ترتیب سے شریعت کے اغراض و مقاصد اور شرعی احکام کے علی پر بحث کی۔^(۱) آپ نے مقاصدِ شریعت کو پانچ درجات میں تقسیم کیا۔ وہ پانچ درجات یہ ہیں: ضرورات، حاجات عامہ،^(۲) مكرمات،^(۳) مندوبات، اور نادر،^(۴) جمال الدین عطیہ^(۵) کے مطابق امام جوینی^(۶) کے

- ۳- محمد نجات اللہ صدیقی، مقاصدِ شریعت (اسلام آباد: ادارہ تحقیقات اسلامی، ۲۰۱۲)، ۳۔
- ۴- امام جوینی^(۷) نے حاجات عامہ کی قید لگا کر حاجات خاصہ کو نکال دیا۔ حاجات عامہ سے ان کی مراد وہ حاجات ہیں جو ضروریات کے درجے تک نہیں پہنچتیں، جیسے اجراء۔
- ۵- مكرمات سے مراد وہ امور ہیں جو نہ ضرورات ہیں اور نہ ہی حاجات۔ تاہم وہ ایسی چیزیں ہیں جو مقصد کے حصول کو آسان بناتی ہیں یا انھیں کسی قسم کے نقصان پہنچنے سے بچانے میں معاون ہوتی ہیں۔
- ۶- امام عبد الملک بن عبد اللہ الجوینی، البرهان فی أصول الفقه (بیروت: دار الكتب العلمية، ۱۹۹۷)، ۲: ۷۹-۸۰۔
- ۷- ڈاکٹر جمال الدین عطیہ ۱۹۲۸ء کو مصر کے شہر متمنر کے ایک گاؤں کوم انور کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ۱۹۳۸ء میں جامعہ قاہرہ سے قانون کی سند حاصل کی۔ پھر ۱۹۵۰ء میں اسی جامعہ سے شریعہ علوم کی سند بھی حاصل کی۔ ۱۹۶۰ء میں جامعہ جنیف سویسرا سے ڈاکٹریٹ کیا۔ لگز برج میں گیارہ سال تک بینکاری سے وابستہ رہے جہاں انھوں نے اسلامی

شاگرد امام غزالی عَزَّلَهُ (۵۰۵ھ) نے مقاصد پر سیر حاصل بحث کی اور مقاصدِ شریعت اور مصالح کو یک جا کر دیا۔^(۸) بایں طور کہ مقاصدِ شریعت کی ایک خاص فہرست: دین، جان، عقل، نسل اور مال، مرتب کی،^(۹) پھر انھیں دینی اور دنیوی مقاصد کے اعتبار سے تقسیم بھی کیا۔ امام غزالی عَزَّلَهُ (۵۰۵ھ) کہتے ہیں: کبھی یہ مقاصد جلب منفعت کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں اور کبھی ان مقاصد کو کسی ضرر سے محفوظ کرتے ہوئے باقی رکھ کر حاصل کیا جاتا ہے۔^(۱۰) چنانچہ ان پانچ مقاصد کی حفاظت کو مصلحت اور ان میں واقع خلل کو مفسدہ قرار دیا، پھر ان مقاصدِ شریعت کی درجہ بندی کرتے ہوئے امام غزالی عَزَّلَهُ (۵۰۵ھ) نے اپنے شیخ جوینی عَزَّلَهُ (۷۸۷ھ) کے پانچ درجاتِ مقاصد کو تین درجات ضرورت، حاجت، اور تحسینیات میں سमودیا۔^(۱۱) نجات اللہ صدیقی^(۱۲) کہتے ہیں:

بیکاری کے آغاز میں اہم کردار ادا کیا۔ پہلا اسلامی مالیاتی ادارہ بیت التمویل الکویتی متعارف کرنے میں آپ کی نمایاں خدمات میں 1992ء تا 1998ء یونیورسٹی آف قطر میں خدمات سرانجام دیں۔ شیخ عبدالوهاب خلاف اور شیخ ابو زہرہ سے بہت متاثر تھے۔ 1975ء میں حسن البناء سے متاثر ہو کر تنظیم الاخوان میں شمولیت اختیار کی اور اسی دوران 1979ء تا 1985ء میں اپنے علم فقہ، فلسفہ اور قانون میں یہ طولی رکھتے ہیں۔ آپ کی بے شمار تصانیف میں جن میں النظرية العامة للشريعة الإسلامية، نحو تفعيل مقاصيد الشريعة، علم أصول الفقه و العلوم الاجتماعية، الاستفادة من مناهج العلوم الشرعية في العلوم الإنسانية اہم ہیں۔

[http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A4%D9%8A%D9%86]

- ۸- الغزالی، مصدر سابق، ۱۷۹۔

-۹- جمال الدین ابن عطیہ، نحو تفعیل مقاصد الشريعة (دمشق: دار الفکر، ۲۰۰۳)، ۲۸۔

-۱۰- امام ابو الحامد الغزالی، شفاء الغلیل فی بیان الشبه والمخیل ومسالک التعلیل (بغداد: مطبعة الإرشاد، ۱۹۷۱ء)، ۱۶۲-۱۶۱۔

-۱۱- الغزالی، مصدر سابق، ۱۵۹-۱۶۲۔

-۱۲- علوم اسلامیہ پر اپنے کام کی بنابر ممتاز شاہ فیصل بین الاقوایی پر انز کے فاتح اور نئی دہلی کے معروف ادارے انسٹی ٹیوٹ آف آجیکلیو اسٹڈیز کی طرف سے شاہ ولی اللہ ایوارڈ کے لیے نام زدڈا کش محمد نجات اللہ صدقی ۱۹۳۱ میں ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ انھوں نے اپنی تعلیم علی گڑھ یونیورسٹی سے کمل کی جہاں وہ معاشریات اور علوم اسلامیہ کے ایوسی ایٹ پروفیسر بھی رہے۔ ڈاکٹر صدقی نے جدہ کی کنگ عبد العزیز یونیورسٹی کے اسلامی معاشریات کے مرکز برائے تحقیق میں بھی تدریسی خدمات انجام دیں اور لاس انچیلیس میں یونیورسٹی آف کیلی فورنیا کے مرکز برائے مطالعاتِ مشرق کے بھی فیلو ہے۔ دنیا بھر میں سفر کرنے والے یہ اہل علم جدہ میں اسلامی ترقیاتی بینک کے اسلامی تحقیق و تربیتی ادارے کے بھی ویٹنگ اسکار

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ (۵۰۵ھ) مقاصدِ شریعت کو جن مصالح مرسلہ کے ہم معنی شمار کرتے ہیں اُس کا تصور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ (۹۷۹ھ) کے ہاں بہت پہلے سے متا ہے۔^(۱۲) شیخ مصطفیٰ زرقا (۱۳۱۹ھ)^(۱۳) کہتے ہیں کہ مصالح مرسلہ کا یہ تصور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ (۵۰۱ھ) کے ہاں اسخان کی صورت میں متا ہے۔^(۱۴)

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ (۵۰۵ھ) کے بعد میں آنے والے فقہاً بشمول امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ (۲۰۲ھ)، سیف الدین الامدی رحمۃ اللہ علیہ (۲۳۱ھ)، ابن الحاچب رحمۃ اللہ علیہ (۲۳۶ھ)، عز الدین ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ (۲۶۰ھ)، امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ (۲۸۵ھ)، اور ابن سکی رحمۃ اللہ علیہ (۱۷۷ھ) وغیرہم نے مقاصدِ شریعت کے باب میں جو کام بھی کیا ہے، وہ انھی بنیادوں پر ہے جن کی پنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ (۵۰۵ھ) نے رکھی تھی، البتہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (۲۷۸ھ) اور ان کے شاگرد علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ (۵۱۱ھ) نے مقاصد کی فہرست میں چند ایک چیزوں کا اضافہ کیا ہے۔ امام ابو سحق شاطبی رحمۃ اللہ علیہ (۹۰۷ھ) نے اس موضوع پر جو کام کیا ہے وہ اس وقت تک کیے گئے تمام کاموں میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ بارھوں صدی ہجری کے او اخیر میں ہندستان میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں شریعت کے جزوی احکام کی مصلحتوں پر بحث کی ہے۔ تیونس کے مائیہ ناز عالم طاہر بن عاشور (۱۲۷۶ھ) نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور مقاصدِ شریعت کی فہرست کو پھیلا دیا۔^(۱۵) جس کے بعد یہ بھی ایک موضوع بن گیا کہ کیا مقاصدِ شریعت صرف یہی پانچ ہیں یا کچھ اور امور بھی ایسے ہیں جن کو مقاصدِ شریعت کی

رہے۔ ان کی بہت سی تصنیفات ہیں۔ وہ بطور ایڈیٹر بھی کئی علمی مجلات سے وابستہ اور کئی کمپیوٹر کے رکن رہے ہیں۔

[<http://marifaacademy.com/ur/discover/scholar>]

-۱۳- صدقی، مقاصد شریعت، ۶۔

-۱۴- مصطفیٰ احمد الزرقا ۱۹۰۳ء کو سوریا کے شہر حلب میں پیدا ہوئے۔ اپنے زمانے کے فقہ کے علماء میں سے ایک بڑے عالم تھے۔ آپ کے والد احمد بن شیخ محمد الزرقا (۱۳۵۷ھ) ایک عظیم فقیہ تھے۔ آپ نے عربی ادب، ریاضی اور فلسفے میں تعلیم حاصل کی۔ جامعہ الازہر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ فقہ اور قانون پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ فتاویٰ مصطفیٰ الرزقا کے نام سے ایک مجموعہ فتاویٰ بھی موجود ہے۔ ۱۹۹۹ء بطور ایڈیٹر میں بھی مجموعہ فتاویٰ پائی۔

[http://ar.wikipedia.org/wiki/مصطفی_الرزقا ماخوذ: ۲۳ مارچ ۲۰۱۶ء]

-۱۵- مصطفیٰ احمد الزرقا، المدخل الفقهي العام (دمشق: دار القلم، ۲۰۰۳ء)، ۱: ۱۲۱۔

-۱۶- احمد الريونی، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبی (امریکا: المعهد العالمي للفکر الإسلامي، ۱۹۹۵ء)،

فہرست میں شامل کیا جاسکتا ہے؟ اس سلسلے میں مولانا احمد رضا خان بریلوی حَفَظَ اللَّهُ عَنْهُ (۱۳۲۰ھ) کا موقف یہ ہے کہ مقاصدِ شریعت تو صرف پانچ ہیں اور ان کے علاوہ جو بھی اوامر ہیں وہ انھی پانچ مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں۔ (۱۸)

مکملاتِ مقاصد یا مقاصدِ شریعت کی درجہ بندی؟

عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ فقہا اور اصولیین نے مقاصدِ خمسہ کی درجہ بندی کی ہے، لیکن بظاہر مقاصدِ شریعت کی بجائے یہ مکملاتِ مقاصد کی درجہ بندی معلوم ہوتی ہے۔ مقاصد اور ان کے مکملات (۱۹) دو الگ الگ تصور ہیں اگرچہ لازم ملزوم ہیں کہ مکملات کے بغیر مقاصد کا حصول ممکن نہیں، مثلاً شریعت بیع کو جائز قرار دیتی ہے حالاً کہ بیع از خود مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ انسان کے مال میں بڑھو تری ہو، پھر یہی مال دیگر مقاصد کی تکمیل میں بھی مدد و معاون ہو گا؛ اس لیے بیع مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ تو ہے، لیکن بذات خود مقصود نہیں ہے۔

امام جوینی حَفَظَ اللَّهُ عَنْهُ (۷۸ھ) سے مقاصد کی جو درجہ بندی مذکور ہے اُس پر بظاہر مکملاتِ مقاصد کی درجہ بندی کا گمان ہوتا ہے، جیسے ضرورت، حاجات عامہ، مکرمات، مندوبات، اور نادر؛ کیوں کہ امام جوینی حَفَظَ اللَّهُ عَنْهُ (۷۸ھ) نے ان کی تفصیل میں تصاص، اور دیگر حدود کی امثلہ بیان کی ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح ہے کہ تصاص اور حدود بذات خود شریعت کا مقصد نہیں ہیں، بلکہ مختلف مقاصدِ شریعت کی تکمیل کا باعث ہیں۔ امام جوینی حَفَظَ اللَّهُ عَنْهُ (۷۸ھ) نے مقاصدِ شریعت کی کوئی فہرست مرتب نہیں کی، بلکہ یہ کام ان کے شاگرد امام غزالی حَفَظَ اللَّهُ عَنْهُ (۵۰۵ھ) نے کیا ہے۔ امام غزالی حَفَظَ اللَّهُ عَنْهُ (۵۰۵ھ) نے مقاصدِ خمسہ کی فہرست دی اور انھیں

-۱۷- مولانا احمد رضا خان بھارت کے شہر بریلی میں ۱۸۵۶ء میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے آپ کو بریلوی کہا جاتا ہے۔ آپ کو تقریباً پچپن علوم پر دست رس حاصل تھی۔ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ مختلف علوم و فنون پر بہت سی کتب اور رسائل تحریر کیے۔ آپ کے فتاویٰ جات کو عصر حاضر میں مرتب کیا گیا جو کہ تیس جلدیوں پر محیط ایک فقہی انسائیکلو پیڈیا ہے۔ آپ کی وجہ شہرت میں اہم آپ کی حضور عَلَيْهِ السَّلَامُ سے بے حد محبت ہے۔ آپ کی کتب کی تعداد چودہ سو تک بیان کی گئی ہے جن میں سے بہت سا ذخیرہ ابھی تک شائع نہیں ہو سکا۔ ۱۹۲۱ء کو آپ نے رحلت فرمائی۔ (ماخوذ از سوانح امام احمد رضا (کھنجر: مکتبہ نوریہ رضویہ)، ۳۱۲،

-۱۸- مولانا احمد رضا خان بریلوی، فتاویٰ رضویہ (lahor: رضا اکیڈمی)، ۲۰۹: ۲۱،

-۱۹- مکملات سے مراد وہ امور ہیں جو شریعت کے مقاصد کو کامل کرتے ہیں۔

ضروریات، حاجیات اور تحسینیات میں تقسیم کیا۔ امام شاطبی رضی اللہ عنہ (۷۹۰ھ) نے اسی تقسیم کو اپنایا۔^(۲۰) اگر اس تقسیم سے مراد مقاصدِ خمسہ کی تقسیم لی جائے تو پھر یہ تقسیم کچھ یوں ہونی چاہیے تھی: ضروریات میں جان اور دین، حاجیات میں نسل اور عقل اور تحسینیات میں مال کا شمار ہوتا یا اس طرح کی کوئی اور ترتیب، حالاں کے ایسا نہیں ہے بلکہ جو چیزیں مقاصدِ خمسہ کے حصول اور تکمیل کا سبب بنتی ہیں انھیں اُن کی اہمیت کے پیش نظر ضروریات، حاجیات اور تحسینیات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس لیے امام غزالی رضی اللہ عنہ (۵۰۵ھ) اور امام شاطبی رضی اللہ عنہ (۷۹۰ھ) سے منقول درجہ بندی پر مقاصد کے بجائے مکملاتِ مقاصد کی درجہ بندی کا گمان ہوتا ہے۔ نجات اللہ صدیقی نے مقاصد کی فہرست میں جن نئے امور کا اضافہ کیا ہے^(۲۱) وہ بھی درحقیقت مقاصد کے بجائے کسی نہ کسی صورت میں مکملاتِ مقاصد میں شمار ہوتے ہیں۔

مکملاتِ مقاصد کی درجہ بندی اُن کی اہمیت کے پیش نظر کی جاتی ہے جب کہ ان کی تکمیل جلب منفعت (منفعت کے حصول) اور دفع مضرت (قصان کے دور کرنے) جیسے اصولوں کے تحت ہوتی ہے۔ ضروریات وہ اہم مکملات ہیں جن کے نہ ہونے سے مقاصدِ شریعت کے فوت ہونے کا اندریشہ ہو، جیسے مال کے تحفظ کے لیے چور کے ہاتھ کاٹنا ایک ضروری امر ہے، حالاں کے ہاتھ کاٹنا از خود مقصود نہیں بلکہ اس اقدام سے مقصود مال کا تحفظ ہے اور اس اہمیت کے پیش نظر یہ امر ضرورت کے درجے پر ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہاتھ کاٹنا دفع مضرت کے معنی میں مکملاتِ مقاصد میں سے ہے۔ مال کے تحفظ کے لیے عوض (بیع، اجارہ کی صورت میں) یا بغیر عوض (ہبہ کی صورت میں) ملکیت کا انتقال ایک ضروری امر ہے۔ ملکیت کا انتقال چوں کہ مال کے تحفظ کی ضمانت ہے اس لیے یہ جلب منفعت کے معنی میں ضرورت کے درجے پر ہے۔^(۲۲) حاجات وہ مکملات ہیں جن کے نہ ہونے سے مقاصدِ توفیت نہیں ہوتے، لیکن مقاصد میں خلل ضرور واقع ہوتا ہے، جیسے اجارہ، سلم، استصناع کے عقود کو جائز قرار دینا تاکہ انسان کو زندگی کی بنیادی سہولیات بہم پہنچ سکیں۔ اگر ان عقود کو ناجائز قرار دیا جاتا تو زندگی میں حرج اور تنگی لازم آتی۔ اس لیے یہ عقود جلب منفعت کے معنی میں حاجت کے درجے پر ہیں۔ حکومتِ وقت کا ضرائب یعنی ٹیکسوس کا نافذ کرنا کہ اگر نہ کرے تو ریاستی معاملات میں حرج لازم آئے گی، یہ دفع مضرت کے معنی

-۲۰۔ ابراہیم بن موسی الشاطبی، المواقفات (قاہرہ: دار ابن عفان، ۱۹۹۷ء)، ۲: ۷۶۔

-۲۱۔ صدیقی، مقاصدِ شریعت، ۲۱۔

-۲۲۔ الشاطبی، المواقفات، ۲: ۱۸۔

میں حاجت میں سے ہے۔^(۲۳) اسی طرح تحسینیات وہ کملات ہیں جن کے نہ ہونے سے مقاصد نہ توفوت ہوتے ہیں اور نہ ہی ان میں خلل واقع ہوتا ہے، اسی لیے انھیں فضولیات بھی کہا جاتا ہے جس طرح کہ بیش قیمت لباس، گاڑی وغیرہ کہ جن کے نہ ہونے سے نہ تو کوئی مقصودِ شرعی فوت ہوتا ہے اور نہ ہی ان میں خلل واقع ہوتا ہے۔

شرعی رخصت اور مقاصدِ شریعت

شارع کسی بھی انسان کو اُس کی طاقت سے بڑھ کر کسی حکم کا مکلف نہیں بناتا، جیسے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: "إِنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَقْصُدْ إِلَى التَّكْلِيفِ بِالشَّاقِ وَالإِعْنَاتِ فِيهِ" ^(۲۴) (انسان کو کسی حکم کا مکلف بنانے سے شارع کا مقصد اسے کسی ایسی مشقت اور تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں جس کی وہ طاقت ہی نہ رکھتا ہو) کیوں کہ اگر شارع کا مقصد محض مشقت ہوتا تو پھر شریعت میں رخصتوں کے اصول و ضوابط کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا۔^(۲۵) شرعی احکام کی مشقت کا مقصد انسان کو اُس کی خواہشات کی قید سے آزاد کرنا ہے لیکن جہاں کوئی مشقت مقاصدِ شریعت کے حصول میں حائل ہو رہی ہو تو وہاں شرعی رخصتوں کے اصول متحرک ہو جاتے ہیں۔ مقاصدِ شریعت کے علانے جہاں مقاصد کی بحث کی ہے وہیں رخصت کے قواعد پر بھی سیر حاصل گفت گو کی ہے۔

رخصت کا مطلب کسی کام میں آسانی اور سہولت پیدا کرنا ہے۔ شریعت میں اس سے مراد حکم ہے جس میں مکلف کے لیے کسی عذر و مجبوری کی بنا پر سہولت پیدا کی گئی ہو کیوں کہ وہ اس کام کے سرانجام دینے کی طاقت نہیں رکھتا اور حرمت کا سبب باقی رہتے ہوئے اُسے اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کی اجازت دی گئی ہو^(۲۶)، جیسے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ (۶۰ھ) لکھتے ہیں: "أَمَّا الرُّخْصَةُ؛ فَهَا شُرِعٌ لِغَذْرِ شَاقٍ" ^(۲۷) (رخصت وہ ہے جو کسی سخت مشقت کی وجہ سے مشروع کی گئی ہو)۔ رخصت میں بندی طور پر اباحت کا حکم ہوتا ہے۔ یعنی اس سے حکم لازم نہیں ہوتا بلکہ مکلف کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس مرخص امر کو کر گزرے یا پھر ترک کر دے^(۲۸) کیونکہ شریعت

-۲۳- الزرقا، المدخل الفقهي العام، ۱: ۱۰۲۔

-۲۴- الشاطبی، المواقفات، ۲: ۲۱۰۔

-۲۵- الشاطبی، نفس مصدر، ۲: ۲۱۲۔

-۲۶- غزالی، المستصفی، ص: ۷۸۔

-۲۷- الشاطبی، نفس مصدر، ۱: ۳۶۶۔

-۲۸- عبدالکریم زیدان، الوجیز فی أصول الفقه (مؤسسة قرطبة للنشر والتوزیع)، ۵۲،

کا مقصود بندوں کو کسی تکلیف میں مبتلا کرنا ہرگز نہیں۔ حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَنِي رُحْصُهُ كَمَا يَكْرُهُ أَنْ تُؤْتَنِي مَعْصِيَتُهُ" (۲۹) (بے شک اللہ تعالیٰ کو اپنی رخصتوں پر بندوں کا عمل کرنا تھا یہ اپنے ہے جتنا کہ بندوں کا اسکی نافرمانی کرنا ناپسند ہے)۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شارع کا مقصود جلب منفعت اور دفع مضرت کے تحت اپنے بندوں تک ان کے بنیادی مفادات کے سلسلے میں آسانی پیدا کرنا ہے نہ کہ انھیں کسی مشقت میں مبتلا کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلِكُنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ (۳۰) (اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی رکھے بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمھیں خوب پاک صاف کرے)۔

قاضی ابو بکر الجصاص رضی اللہ عنہ (۳۱) اسی آیت کے حوالے سے لکھتے ہیں:

حرج تنگی کو کہتے ہیں اور اللہ جل جلالہ نے اپنی جناب سے اس بات کی نفی کر دی ہے کہ وہ ہمیں تنگی میں مبتلا کرنے کا کوئی ارادہ بھی رکھتا ہے، تو اس سے ظاہر ہی طور پر یہ استدلال کرنا مناسب ہے کہ اگر احکام شرعیہ میں تعارض آجائے، تو اس حکم کو اختیار کر لیا جائے جس میں تنگی کی نفی ہو اور وسعت و آسانی کا پہلو ہو، جب کہ حرج اور تنگی کی بات کرنے والا اللہ جل جلالہ کے اس فرمان کے ظاہر کی مخالفت کرنے والا ہو گا: (اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔) (۳۲)

تاہم اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر عالمی کو معاملات میں سہولت، آسانی اور وسعت کی حدود کے تعین کی اجازت حاصل ہے۔ جس کا جی چاہے اپنی خواہشات نفس کے مطابق کسی بھی صورت حال کو اپنے لیے مصیبت اور حرج سمجھ کر آسانیاں پیدا کرتا پھرے اور رخصتوں کا ایک باب کھول لے۔ اس لیے فقہاء شرعی رخصتوں کے حوالے سے ضرورت و حاجت سے متعلق چند اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں۔ جن کی روشنی میں حرج یا سہولت کا تعین صرف اور صرف راجحین فی العلم ہی کا کام ہے۔ اس سلسلے میں فقہاءے قبل قدر کام کیا ہے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ عنہ (۳۳) نے ۱۳۲۰ھ میں جلی النص فی أماكن الرخص (مقامات

-۲۹۔ امام احمد بن حنبل، مسنند احمد بن حنبل، (بیروت: مؤسسة الرسالة، ۲۰۰۱ء)، رقم ۵۸۶۶: [ناصر الدین البانی نے

اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ صحيح الترغیب والتہیب، رقم ۱۰۵۹]

-۳۰۔ القرآن ۵: ۶۔

-۳۱۔ احمد بن علی ابو بکر الجصاص، أحكام القرآن (بیروت: دار إحياء التراث العربي، ۱۹۷۵ء)، ۲: ۲۹۰۔

-۳۲۔ یہ رسالہ فتاویٰ رضویہ، ۱: ۲۰۱ میں موجود ہے۔

رخصت کے بیان میں واضح نص) کے نام سے ایک رسالہ تحریر کیا، جس میں انہوں نے رخصت کے قواعد پر امثالہ کے ساتھ بحث کی ہے۔ فقہا کے ہاں اس بات پر اجماع پایا جاتا ہے کہ ضرورت و حاجت کسی امر غیر شرعی سے متعلق رخصت میں موثر ہوتی ہیں، لیکن تحسینیات کے سلسلے میں شریعت کسی قسم کی رخصت نہیں دیتی، اس لیے آگے صرف ضرورت اور حاجت ہی پر بحث ہو گی۔

ضرورت

فقہی کتب کے مطالعے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ضرورت کی تعریف سے متعلق فقہا میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض فقہا جیسے قاضی ابو بکر الجصاص رض (۷۰ھ)،^(۳۳) قاضی ابو بکر بن العربي رض (۲۵۳ھ)،^(۳۴) امام فخر الدین رازی رض (۲۰۶ھ)،^(۳۵) امام قرطبی رض (۲۷۱ھ) اور امام سیوطی رض (۲۹۱ھ)،^(۳۶) ضرورت کو اضطرار کے معنوں میں خاص کرتے ہیں۔ یعنی ضرورت سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف تحفظِ جان کے لیے مجبوری کی حالت میں حرام اور منوع چیزوں کے استعمال کی اجازت ہوتی ہے۔ علامہ جمیل رض

- ۳۳ - الجصاص، أحكام القرآن، ۱: ۱۵۷۔ [ضرورت سے مراد ایسی حالت ہے جب ترکِ اکل سے انسانی جان یا بعض اعضا کو ضرر پہنچنے کا خوف لاحق ہو یا اکراہ کی وجہ سے حرام شے استعمال کرنی پڑے۔]

- ۳۴ - قاضی ابو بکر بن العربي، أحكام القرآن (بیروت: دار الكتب العلمية، ۲۰۰۳ء، ۱: ۸۲)۔

- ۳۵ - امام فخر الدین الرازی، التفسیر الكبير (بیروت: دار إحياء التراث العربي، ۱۹۲۰ھ، ۵: ۱۹۳)۔ [الضرورۃ لَا سَبَبَانِ أَحَدُهُمَا: الْجُوْغُ الشَّدِیدُ، وَأَنْ لَا يَجِدَ مَأْكُولاً حَلَالًا يَسْدِيْهِ الرَّمَقُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ مُضطَرًّا الثَّانِي: إِذَا أَكَرْهَهُ عَلَى تَنَاؤلِهِ مُكْرِرٌ، فَيَحِلُّ لَهُ تَنَاؤلُهُ] (ضرورت کے دو سبب ہیں: ایک سخت بھوک ہے کہ کسی کو کھانے کی اتنی چیز بھی نہ دست یاب ہو کہ جس سے زندگی کی رمق باقی رکھ سکے اور دوسرا یہ کہ اسے کوئی کھانے پر زبردستی کرے تو اس کے لیے کھانا جائز ہو گا۔)

- ۳۶ - محمد بن احمد القرطبی، الجامع لأحكام القرآن (قاهرہ: دار الكتب المصرية، ۱۹۶۳ء، ۲: ۲۲۵)۔ [امام قرطبی رض نے حالات ضرورت کی حد بندی کرتے ہوئے لکھا ہے: اضطرار اس بات سے خالی نہیں ہوتا کہ ظالم کی طرف سے اکراہ ہو یا بھوک کی حالت میں مقصود ہو۔]

- ۳۷ - جلال الدین السیوطی، الأشباه والناظائر (بیروت: دار الكتب العلمية، ۱۹۹۰ء، ۱: ۸۵)۔

(۱۰۹۸ھ) نے صاحب فتح المدبر^(۲۸) محمد بن ابراہیم سمدیسی عَلِیٰ حَفَظَ اللّٰهُ عَنْہُ نَعْلَمُ سے ضرورت کی یہ تعریف نقل کی ہے: "فَالصَّرُورَةُ: بُلُوغُهُ حَدًّا إِنْ مَيْتَنَاؤْلُهُ الْمُمْنُوعُ هَلَكَ، أَوْ قَارَبَ وَهَذَا يُبِيِّحُ تَنَاؤْلَ الْحَرَامِ" (۲۹) (ضرورت سے مراد ایسی حد تک پہنچ جانا کہ اگر بندہ ممنوع کا ارتکاب نہ کرے تو وہ ہلاک یا ہلاکت کے قریب پہنچ جائے)۔

۳۸ - علامہ حموی عَلِیٰ حَفَظَ اللّٰهُ عَنْہُ نَعْلَمُ نے اپنی کتاب میں بہت سے مقامات پر فتح المدبر کے حوالے سے چند مباحث کا ذکر کیا ہے، لیکن علامہ حموی عَلِیٰ حَفَظَ اللّٰهُ عَنْہُ نَعْلَمُ کی کتاب کے جتنے مطبوعہ نسخے ہیں ان میں فتح المدبر کے بجائے فتح القدیر کہا ہوا ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ضرورت کی یہ تعریف غمز عيون البصائر کے مطبوعہ نسخوں میں فتح القدیر لاہن ہام کے حوالے سے درج ہے حالاں کہ یہ تعریف فتح القدیر میں نہیں ملتی۔ یہ ساری غلطی کا تین اور ناشرین حضرات کی ہے جنہوں نے غمز عيون البصائر کے مخطوطوں میں فتح المدبر کو فتح القدیر کر دیا اور اس طرح محققین یہ نقل در نقل کرتے رہے۔ حاجی خلیفہ، کشف الظنون (بیروت: دار إحياء التراث العربي، ۱۹۷۱ء)، ۲: ۱۲۳۵ کے مطابق صاحب فتح المدبر محمد بن ابراہیم سمدیسی کی یہ کتاب فقه حنفی کی توابع فقہیہ کی ایک کتاب ہے جو صرف مخطوطہ حالت میں ملتی ہے۔ لہذا علامہ حموی عَلِیٰ حَفَظَ اللّٰهُ عَنْہُ نَعْلَمُ کے حوالے سے ضرورت خمسہ کا تذکرہ کرتے ہیں کیوں کہ فتح القدیر میں ضرورت خمسہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ فتح المدبر کا مخطوطہ نسخہ اس لئک پر pdf فارمیٹ میں موجود ہے۔ ضرورت خمسہ کا ذکر اس کے

صفحہ ۱۵ پر موجود ہے۔

[http://www.alukah.net/Manu/Files/Manuscript_3777/makhtot.pdf]

۳۹ - محمد بن ابراہیم ۸۵۳ھ کو مصر کے شہر بحیرہ کے نواح میں ایک گاؤں سمدیسی میں پیدا ہوئے جس کی نسبت سے انھیں سمدیسی کہا جاتا ہے۔ آپ شمس الدین السمدیسی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ آپ حنفی مذہب کے فقیہ ہیں۔ مصر میں ہی فقه کی تعلیم حاصل کی۔ قاہرہ میں آپ نائب قاضی بھی رہے اور غوریہ میں قضاۓ کے معاملات میں اپنے پیچا قاضی شمس الدین کی نیابت بھی کی۔ آپ نے ۹۶۱ھ کو فتح المدبر للعاجز المقصوٰر کے نام سے فقہ پر ایک کتاب لکھی۔ آپ کی وفات ۹۶۲ھ کو قاہرہ میں ہائی۔ خیر الدین بن محمود الزركلی، الأعلام (دار العلم للملاتین، ۲۰۰۲ء)، ۵: ۳۰۲۔

۴۰ - احمد بن محمد بن الحموی، غمز عيون البصائر فی شرح الأشباه والناظائر (بیروت: دار الكتب العلمية، ۱۹۸۵ء)، ۱: ۲۷۷۔

دوسرے فقہا جیسے امام غزالی عَزَّوَجَلَّ (۵۵۰ھ)، عَزَّ الدِّینِ ابْنُ عَبْدِالسَّلَامِ عَزَّوَجَلَّ (۲۲۰ھ)، امام ابوالحق شاطبی عَزَّوَجَلَّ (۷۹۰ھ)، شَيْخُ عَبْدِالوَهَابِ الْخَلَافَ (۷۸۵ھ)، شَيْخُ مُحَمَّدِ بُوزَهْرَه عَزَّوَجَلَّ (۱۳۹۳ھ)، شَيْخُ مُصطفَى زُرْقَانَ (۱۳۱۹ھ)، شَيْخُ وَهْبَهِ رَحْمَلِي عَزَّوَجَلَّ (۱۳۳۶ھ) اور شَيْخُ أَحْمَدِ الرَّئِيْسُونِي (۱۴۰۷ھ)

- ۳۱۔ الغزالی، شفاء الغليل، ۱۶۲۔

- ۳۲۔ عَزَّ الدِّينِ ابْنُ عَبْدِالسَّلَامِ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (قاهرہ: مکتبۃ الكلیات الأزهریة، ۱۹۹۱ء، ۲، ۲۰۰۰ء)؛

- ۳۳۔

- ۳۴۔ عبد الوهاب الخلاف، علم أصول الفقه (مکتبۃ الدعوۃ شباب الأزهر)، ۱۹۹۹ء؛ [شَيْخُ عَبْدِالوَهَابِ الْخَلَافَ ۱۸۸۸ء کو مصر کے شہر کفرالزیات میں پیدا ہوئے۔ اسی شہر کے کسی مكتب میں قران مجید حفظ کرنے کے بعد ۱۹۰۰ء میں الازہر شریف جہاں سے ۱۹۱۵ء میں گرجیویشن مکمل کی اور پھر وہیں مدرس مقرر ہوئے۔ ۱۹۲۰ء میں قاضی مقرر ہوئے پھر ۱۹۲۳ء میں ڈائریکٹر اوقاف بھی رہے۔ ۱۹۳۲ء سے جامعہ قاهرہ میں پروفیسر کے طور پر خدمات شروع کیں اور ۱۹۵۶ء کو ایک شدید مرض لاحق ہونے کی وجہ سے جامعہ قاهرہ سے الگ ہو گئے۔ آپ کی تالیفات میں علم اصول الفقه، أحكام الأحوال الشخصية، الوقف والمواريث، السياسة الشرعية، نور من الإسلام اہم ہیں۔ ۱۹۵۶ء میں آپ کی وفات ہوئی۔]

[<http://shamela.ws/index.php/author/1099>]

- ۳۵۔ محمد بوزہرہ، أصول الفقه، (بیروت: دارالفکر العربي)، ۲۳-۳۵؛ [آپ کا اصل نام محمد احمد مصطفی ہے اور آپ محمد بوزہرہ کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ ۱۹۷۲ء کو مصر کے مغربی صوبے محلہ امام الکبری میں پیدا ہوئے۔ پچھن میں ہی قران مجید حفظ کر لیا تھا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت جامعہ الاحمدی طنطا میں حاصل کی۔ یہاں کے بڑے علماء کرام سے ۳ سال تک علم کی تحصیل کی اور اس کے بعد مدرسہ القضاۃ الشرعی سے آٹھ سالہ تعلیم مکمل کر کے سنہ فراغت حاصل کی۔ فراغت کے بعد درس و تدریس کے میدان میں تدریس کرنا شروع ہوا۔ آپ کی تالیفات میں علم اصول الدین میں تدریس پر مقرر ہوئے۔ شیخ مجمع البحوث الاسلامیہ کے رکن کے طور پر چلے گئے ۱۳۸۲ھ میں۔ آپ الشریعہ الاسلامیہ کے محاضرات میں بغیر اجرت کے شرکت فرماتے تھے۔ شیخ بوزہرہ نے نظریات و عقائد، وقف اور اس کے احکامات، وصیت اور اس کے قوانین اور احوالات شخصیہ جیسے موضوعات پر قلم اٹھایا اور بہت سی کتابیں تحریر فرمائیں۔ چند ایک کتابوں کے نام یہ ہیں: ابن تیمیہ، ابن حزم، الإمام الصادق و فقهہ، أحكام التركات و المواريث، علم أصول الفقه، محاضرات في عقد الزوج و آثارہ۔ آپ نے ۱۹۷۲ء میں وفات پائی۔] [محمد بوزہرہ/ https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%87%D8%A9]

- ۳۶۔ الزرقا، المدخل الفقهي العام، ۱: ۱۰۲۔

- ۳۷۔ وهبة الرحيلی، نظریۃ الضروریۃ الشرعیۃ (بیروت: مؤسسة الرسالة)، ۳-۷۔

- ۳۸۔ احمد الریسونی، محاضرات في مقاصد الشريعة (قاهرہ: دارالسلام، ۲۰۰۹ء)، ۱۸۹-۱۹۱؛ [آپ کا پورا نام احمد بن عبد السلام بن محمد الریسونی ہے۔ آپ کو کے شہر القصر الکبری میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ۱۹۷۸ء کو جامعہ

ضرورت کو وسیع معنوں میں لیتے ہیں۔ اور صرف تحفظِ جان کی بجائے تمام مقاصدِ خمسہ پر ضرورت کا اطلاق کرتے ہیں۔ امام ابوالحق شاطئ عَلَيْهِ السَّلَامُ (۶۰ھ) ضرورت کی زیادہ جامع تعریف کرتے ہیں: جہاں تک ضرورت کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دینی اور دنیوی مصالح کے قیام کے لیے ضروری ہو بایس طور کہ اگر وہ موجود نہ ہو تو دنیا کے مصالح ٹھیک طور پر نہ چل سکیں، بلکہ ان میں فساد، انتشار اور زندگی کے فوت ہونے کا خدشہ لا حق ہو اور [اس کے ترک کرنے میں] آخرت میں نجات اور نعمتوں سے محرومی اور واضح خسارے کے ساتھ لوٹنے کا خدشہ ہو۔^(۲۸)

ضرورت کی دونوں تعریفوں کا تجربہ کیا جائے تو ان میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ ضرورت کی پہلی تعریف سے مراد یہ ہے کہ صرف ہلاکت نفس سے بچنے کے لیے کسی منوع امر کے ارتکاب کا نام ضرورت ہے، لیکن یہ تعریف شریعت کے دیگر مقاصدِ اربعہ کا احاطہ نہیں کرتی، جب کہ ضرورت کی دوسری تعریف زیادہ جامع ہے کیوں کہ ضرورت کا تحقیق صرف جان کے تحفظ کے لیے ہی نہیں ہوتا، بلکہ دیگر مقاصدِ شریعت کے تحفظ کے لیے بھی ضرورت تحقیق ہوتی ہے۔ اس لیے ضرورت کے تصور کو صرف اور صرف انسانی جان کے تحفظ کے ساتھ خاص کر دینا مناسب نہیں ہے۔ دوسرے موقف کے فقہانے اس بات کی تصریح کی ہے کہ ضرورت کا اطلاق عبادات، جنایات اور معاملات سب میں ہوتا ہے، جیسے امام شاطبیؒ معاملات پر ضرورت کے اطلاق سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "وَالْمُعَالَاتُ مَا كَانَ رَاجِعًا إِلَى مَصْلَحةِ الْإِنْسَانِ مَعَ غَيْرِهِ، كَانَتْ قَارِبًا إِلَى الْمَالَكِ بِعَوْضٍ أَوْ بِغَيْرِ عَوْضٍ، بِالْعَقْدِ عَلَى الرِّقَابِ أَوِ الْمُنَافِعِ أَوِ الْأَبْضَاعِ" (۲۹) (اور معاملات بھی جب کہ وہ انسان کے ساتھ کسی دوسرے کی مصلحت کی طرف راجع ہوں، جیسے عوض یا بغیر عوض املاک کا انتقال، غلام کی آزادی یا منافع پر معاهدے کے ساتھ [ملکیت کا انتقال])۔ یہاں پر بات واضح ہو جاتی ہے کہ مالی

القردوين، فاس سے شریعت کی ڈگری مکمل کی۔ جامعہ محمد اثماں الرباط سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ آپ کو اہل المقاصد علماء میں شمار کیا جاتا ہے۔ مقاصد شریعت سے متعلق امام شاطبی عین الشیخ کے نظریات پر بہت ہی اہمیت کا حامل کام کیا ہے۔ آپ کی مشہور تالیفات میں نظریۃ المقاصد عند الإمام الشاطبی، من أعلام الفكر المقاصدي، مدخل إلى مقاصد الشریعة، الاجتهاد: النص والمصلحة والواقع، الوقف الإسلامی: مجالاته وأبعاده اور الفکر المقاصدی قواعدہ وفوائدہ جیسی کتب شامل ہیں۔ آپ آج کل جامعہ محمد اثماں الرباط میں فقہ، اصول الفقہ اور مقاصد شریعت کے اسپاٹ چھار ہے ہیں۔

[٢٠١٦] [أحمد الريسيوني (رجل دين) [https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A_\(%D8%AE%D9%82%D9%84_%D8%AF%D9%8A%D9%86\)](https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A_(%D8%AE%D9%82%D9%84_%D8%AF%D9%8A%D9%86))] [٢٣] [٢٣]

٣٨ - الشاطبي، المواقفات، ٢: ٧٤

٣٩ - الشاطبي، نفس مصدر، ٢: ١٨ -

معاملات میں بھی ضرورت متحقق ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ ضرورت کے دائرہ کار میں اضطراری نوعیت کے احکام بھی آتے ہیں، وہ احکام بھی جو اس سے کم درجے پر ہیں، وہ بھی جن کا مقصود انسانی حیات کا تحفظ ہے اور وہ بھی جن کا مقصد انسان کے دیگر اہم مفادات کا تحفظ ہے۔ شریعت میں اس شخص کو بھی مضطرب شمار کیا گیا ہے جس کا مال خطرے میں ہو، کیوں کہ حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ۔" (جو^{۵۰}) (جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے)۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اگر اس لڑائی کے دوران غاصب مارا جائے تو وہ جہنمی ہو گا۔^{۵۱} اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ضرورت کا اطلاق مال کے تلف ہونے پر بھی ہوتا ہے۔

ضرورت کا تحقیق اور شرعی رخصت

ضرورت شریعت کے احکام میں رخصت پیدا کرتی ہے تاکہ مکف کو کسی ایسی مشقت اور حرج سے بچایا جاسکے جو اس کے کسی ایسے مفاد کو تلف کر سکتی ہو جس کا تعلق مقاصد خمسہ سے ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "إِنْ كَانَتِ الصَّرُورَةُ فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ يُسْرٌ" (۵۲) (اگر ضرورت متحقق ہو جائے تو بے شک اللہ کا دین سر اپا آسانی ہے)۔ اسی بابت فہرane ضرورت کا ایک صابطہ دیا ہے جس سے رخصت مستفادہ ہوتی ہے: "الضرورات تبیح المحظورات" (۵۳) (ضرورتیں منوع چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں)۔ تاہم کسی امر کے ضرورت میں سے ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کا بہیک وقت ایک ساتھ پایا جانا لازمی ہے:

- ۵۰۔ محمد بن اسماعیل البخاری، *الصحيح البخاري*، کتاب المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله (دار طوق النجاة، ۱۴۲۲ھ، ۱۳۶، رقم: ۲۲۸۰)۔

- ۵۱۔ مسلم بن الحجاج، *الصحيح المسلم*، کتاب الإيمان (بیروت: دار إحياء التراث العربي)، ۱: ۱۲۳، رقم: ۱۲۰۔
[عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي قَالَ: فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ فَاتَنِي قَالَ: فَاتِلْهُ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ فَاتَنِي قَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَلَتْهُ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ]۔

- ۵۲۔ محمد طاہر ابن عاشور، *التحریر والتنویر* (تونس: الدار التونسية للنشر، ۱۹۸۳ء)، ۲: ۳۸۸۔

- ۵۳۔ مجلہ الأحكام العدلية (کراچی: نور محمد، کارخانہ تجارت کتب، آرام باغ)، المادہ: ۲۱، ۱۸۔

۱. وہ ضرورت غنی نہ ہو بلکہ یقین ہو، مثلاً اگر ضرورت کے تحت اُسے رخصت نہ دی گئی تو بنہ اپنا مال یقینی طور پر ضائع کر بیٹھے گا۔
۲. ضرورت صرف اُس وقت متحقق ہو گی جب کہ حرام معاملے کے ارتکاب کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ پچی ہو اور اُس کے ارتکاب سے اُس مشقت و حرج سے خلاصی بھی یقین ہو۔
۳. وہ ضرورت کسی دوسرے انسان کے اُسی درجے یا کسی بڑے درجے کے حق کو تلف بھی نہ کرتی ہو، (۵۴) مثال کے طور پر اگر کسی کو دھمکی دی گئی ہو کہ وہ دوسرے کامال جلا دے ورنہ اُسی طرح کا اُس کا اپنامال جلا دیا جائے گا تو اس صورت میں مکرہ کے لیے ضرورت متحقق نہیں ہو گی کہ جس پر وہ عمل کرتے ہوئے دوسرے کامال جلا دے، لیکن اگر اُسے جان کی دھمکی ہو تو پھر ضرورت متحقق ہو گی، اور اُسے دوسرے کامال جلانے کی رخصت حاصل ہو گی؛ تاہم اس بات پر فقہا کا اختلاف ہے کہ مال کا تاو ان کوں ادا کرے گا؟ احناف، حنابلہ، بعض شوافع کے نزدیک تاو ان کا مطالہ مکرہ سے کیا جائے گا؟ (۵۵)
۴. ضرورت عارضی طور پر اور محدود مقدار میں مؤثر ہو گی بایں طور کہ جیسے ہی ضرورت پوری ہو گی تو رخصت بھی ختم ہو جائے گی، جیسے فقہی قاعدہ ہے: "مَأْبِيحَ لِلضُّرُورَةِ يَتَقدَّرُ بِقَدْرِهَا" (۵۶) (جو چیز ضرورت کی وجہ سے مباح کی جاتی ہے وہ صرف بقدرِ ضرورت ہی مباح ہوتی ہے)۔

حاجت

امام ابو اسحق الشاطئی رضی اللہ عنہ (۹۰-۷۹۰ھ) حاجت کی یہ تعریف کرتے ہیں:

حاجت سے مراد وہ مصارع ہیں جن کی ضرورت تنگی کو دور کرنے اور حرج و مشقت کو رفع کرنے کے لیے پیش آئے اور اگر ان کی رعایت نہ برقراری جائے تو مکلفین کی زندگی مشقت کی وجہ سے دو بھر ہو جائے، لیکن اس طرح کا فساد متصور نہ ہو

۵۳ - السیوطی، الأشباه والنظائر، ۱: ۸۲۔ [الضُّرُورَاتُ تُبَيَّحُ الْمُحْظُورَاتِ بِشَرْطِ عَدَمِ نُهْصَانَتِهَا عَنْهَا]۔

۵۴ - الزحلی، نظریۃ الضروریۃ الشرعیۃ، ۹۱۔

۵۵ - مجلہ الأحكام العدلیہ، المادہ: ۲۲، ۱۸۔

جو ضروری مصالح کو نظر انداز کرنے سے برپا ہوتا ہے۔ حاجت عبادات، عادات، معاملات اور جنایات سب میں جاری ہوتی ہے۔^(۵۴)

وہبہ الزحلی (۱۴۳۶ھ) بھی مختلف الفاظ کے ساتھ تقریباً یہی تعریف کرتے ہیں: "خود سے حرج اور مُشْقَّت کو دور کرنے کے لیے لوگوں کو جن مصالح کی طرف احتیاج ہوتی ہے وہ حاجت کہلاتی ہیں وہ اگر مفقود ہوں تو لوگ تنگی میں بیٹلا ہو جائیں۔ تاہم ان کے نہ ہونے سے زندگی کو خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔"^(۵۵) علامہ حموی عَلَیْهِ السَّلَامُ (۱۰۹۸ھ) بھی یہیوضاحت کرتے ہیں کہ حاجت میں مقاصدِ خمسہ کی ہلاکت کو خدشہ تو نہیں ہوتا، البتہ ان کے حصول میں خلل ضرور واقع ہو جاتا ہے۔^(۵۶) علامہ طاہر ابن عاشور عَلَیْهِ السَّلَامُ (۱۴۳۹ھ) کہتے ہیں: "الْحَاجَيَاتِ الَّتِي لَا يَسْتَقِيمُ نِظَامُ الْبَشَرِ بِدُونِهَا"^(۵۷) (حاجات وہ ہیں جن کے بغیر انسانی نظام حیات درست طور پر نہیں چل سکتا)۔ احمد کافی (۲۰۰۳) علامہ شاطئی (۲۷۹۰ھ) کی تعریف کو ترجیح دیتے ہوئے حاجت کی تعریف یوں کرتے ہیں:

الحاجة هي ما يحتاجه الأفراد أو تحتاجه الأمة ، للتوسيعة ورفع الضيق ، إما على جهة التأقيت أو التأييد ، فإذا لم تراغ دخل على المكلفين - على الجملة - الخرج والمشقة.^(۵۸)

سہولت کے حصول اور تنگی کو دور کرنے کے لیے افراد یا ساری امت جس چیز کی محتاج ہو وہ حاجت کہلاتی ہے خواہ وہ حاجت محدود وقت کے لیے ہو یا ہمیشہ کے لیے ہو۔ اگر اس کی رعایت نہیں کی جائے گی تو لوگ حرج اور مشقت میں بیٹلا ہو جائیں گے۔

اگر دیکھا جائے تو یہ تعریف زیادہ وسیع نظر آتی ہے کیوں کہ اس تعریف میں حاجت کی اقسام باعتبار عموم و خصوص اور موقعت و تابید سب کا بیان موجود ہے۔

- ۵۷- الشاطئی، المواقفات، ۲: ۲۱۔

- ۵۸- الزحلی، مرجع سابق، ۵۳؛ [الحاجة و هي التي يحتاج الناس اليها لرفع الخرج و دفع المشقة عنهم بحيث اذا فقدت وقع الناس في ضيق دون ان تختل الحياة].

- ۵۹- الحموی، غمز عيون البصاری في شرح الأشباه والناظائر، ۱: ۲۷، [والحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة].

- ۶۰- ابن عاشور، التحریر والتنویر، ۲: ۲۵، ۵۰۔

- ۶۱- احمد کافی، الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها (بیروت: دار الكتب العلمية، بیروت، ۲۰۰۳ء)، ۳۳-۳۲۔

حاجت کی اقسام: حاجت عامہ اور خاصہ

اصولیین حاجت کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں: حاجت عامہ اور حاجت خاصہ۔ وہبہ ز حیلی (۱۴۳۶ھ) لکھتے ہیں: "حاجت عامہ سے مراد وہ حاجت ہے جو کسی خاص گروہ، بستی یا شہر سے متعلق نہ ہو بلکہ عام ہو جیسے اجارہ، جوہر شہر اور ہر ملک کے لوگوں کی حاجت ہے۔ جب کہ حاجت خاصہ سے مراد وہ حاجت ہے جس کا تعلق کسی خاص شہر، بستی یا گروہ سے ہو،" جیسے بیع بالوفاء کیوں کہ یہ اصل بخارا اور اہل مصر کی حاجت تھی۔^(۲۳) حاجت خاصہ سے متعلق دو موقف ملتے ہیں۔ شیخ مصطفیٰ زرقا (۱۴۳۹ھ) کے نزدیک حاجت خاصہ سے مراد کسی فرد کی حاجت نہیں ہے۔^(۲۴) جب کہ وہبہ ز حیلی (۱۴۳۶ھ) حاجت خاصہ میں فرد اور افراد کی حاجت کو بھی شامل کرتے ہیں۔^(۲۵) حالاں کہ حاجت خاصہ میں فرد کی حاجت کے شامل ہونے کی مثال شریعت میں موجود ہے، جیسے حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی حاجت کے پیش نظر انھیں ریشم کالباس پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔^(۲۶)

حاجت کا تحقیق اور شرعی رخصت

اصول فقہ کے علماء میں اس بات پر اختلاف پایا جاتا ہے کہ ہر حاجت رخصت کا سبب بنتی ہے یا نہیں؟ امام جوینی رضی اللہ عنہ (۱۴۲۸ھ) کے نزدیک صرف حاجت عامہ ہی رخصت کا سبب بنتی ہے، تاہم اکثر اصولیین ہر حاجت کو رخصت کا سبب گردانتے ہیں خواہ وہ عام ہو یا خاص؛ البتہ حاجتِ شرعی کب تحقیق ہوگی اور شرعی رخصت کا سبب کب بنے گی؟ اس بارے میں فقہائی طرف سے مقرر کردہ چند شرائط کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے:

- ۲۲ - وہبہ الز حیلی، الفقه الاسلامی وأدله (دمشق: دار الفکر)، ۵: ۱۱۱۔

- ۲۳ - زین الدین بن ابراہیم ابن نجیم، الأشباه والناظائر علی مذهب أبی حنیفة النعمان (بیروت: دار الكتب العلمیة، ۱۹۹۹ء)، ۲: ۷۸۔

- ۲۴ - الزرقا، المدخل الفقهي العام، ۲: ۱۰۰۵۔

- ۲۵ - الز حیلی، نظریة الضرورية الشرعية، ۲: ۲۶۲۔

- ۲۶ - الصحيح البخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب الحریر فی الحرب، رقم: ۲۹۲۰۔

۱-

حاجت کے متحقق ہونے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اُس کے بغیر کوئی دوسرا طریقہ موجود ہی نہ ہو۔ اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ نے اسی بنیاد پر یہ قرارداد پاس کی:

إن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان، وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بحال حلال، وإن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها، من الإقرارات بفائدة قلت أو كثرت، هي طريقة محرمة شرعاً لما فيها من التعامل بالربا. هناك طرق مشروعة يستغني بها عن الطريقة المحرمة، لتوفير المسكن بالتملك. (۲۷)

بے شک گھر انسان کی بنیادی حاجت ہے اور یہ حاجت جائز رائج اور حلال آمدنی سے پوری ہونی چاہیے، لیکن رسائل اسٹاٹ اور ہاؤسنگ بینک کم یا زیادہ فائدے کے عوض قرض کا جو طریقہ کار استعمال کرتے ہیں وہ شرعی طور پر حرام ہے کیوں کہ اس میں تعامل فی الربا ہے، جب کہ حرام طریقوں سے بچنے ہوئے گھر حاصل کرنے کے لیے مشروع طریقے بھی موجود ہیں۔

اس قرارداد کا تجزیہ کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ یہ معاملہ ربوبی قرض کا ہے۔ ایک گھر انسان کی بنیادی حاجت ہے اور حاجت کی وجہ سے اس کی رخصت ملنی چاہیے تھی پھر مجمع الاسلامی نے یہ رخصت کیوں نہیں دی؟ تو اس کا جواب اسی قرارداد میں موجود ہے کہ جب یہ حاجت حلال طریقے سے پوری ہو سکتی ہے تو پھر حرام کے ارتکاب کی اجازت کیسے دی جائے! کیوں کہ حاجت کے تحت رخصت کے حصول کی پہلی شرط ہی یہی ہے کہ اُسے پورا کرنے کے لیے حرام کے ارتکاب کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ ہی نہ ہو۔ جب کہ آج اسلامی مالیاتی ادارے موجود ہیں جو اسلامی طریقے کار پر یہ سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ جب یہ سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اسلامی مالیاتی ادارے نہیں تھے تو اس وقت بھی کچھ علماء گھر کی تعمیر کے لیے سودی قرض کی اجازت نہیں دیتے تھے، تاہم اس حوالے سے بھلوں کے پکنے سے قبل ان کی بیع سے متعلق علامہ ابن عابدین شامی^(۱۲۵۲ھ) کی بحث سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں:

۶۷ - القرارات لمجمع الفقه الإسلامي، (٢٣-٢٧ شعبان، ١٤٣١ھ) قرارداد: ۵۰ (٦/١): بشأن التمويل

العقاري لبناء المساكن وشرائها [یہ قرارداد اس لئک پر مکمل جا سکتی ہے]

[<http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/6-1.htm>]

قُلْكُنَ لِإِلَيْهِ يَحْفَى تَحْقِيقُ الْضَّرَرُ وَرُدُّهُ فِي زَمَانَتَيْ وَلَا سَيِّاً فِي مِثْلِ دِمْشَقِ الشَّامِ كَثِيرَةُ الْأَسْبَارِ
وَالْمَهَارِ فَإِنَّهُ لِغَلَبَةِ الْجَهْلِ عَلَى النَّاسِ لَا يُمْكِنُ إِلَزَامُهُمْ بِالتَّخَلُصِ بِأَحَدِ الطُّرُوفِ الْمُذَكُورَةِ،
وَإِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَعْضِ أَفْرَادِ النَّاسِ لَا يُمْكِنُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَامَتِهِمْ وَفِي نَزْعِهِمْ
عَنْ عَادَتِهِمْ حَرَجٌ (۶۸)

میں کہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں پھلوں کی ایسی فروخت کا ضرورت کے درجے پر ہونا ممکن نہیں ہے۔ خصوصاً مشق کے علاقے میں جو کثیر باغات اور پھلوں کا علاقہ ہے تو لوگوں پر جہالت کے غلبے کی وجہ سے ان کو مذکورہ طرق [یعنی فقہا کی جانب سے پھلوں کے کچنے سے قبل اُن کی بیچ کے جو تبادل طریقے تجویز کیے جاتے ہیں] پر پابند کرنا اگرچہ بعض لوگوں کو ممکن ہے لیکن عوام کے لئے یہ ممکن نہیں جبکہ ان کو عادت چھڑانے پر حرج لاحق ہو گا۔

اس سے یہ استدلال کیا جاسکتا ہے کہ سود کے مجوزہ تبادل طریقے کے ذریعے گھر کی خرید ایک عام یا متوسط آدمی کی دسترس سے باہر ہے کیونکہ اسلامی بینک عموماً ایسے افراد کو ہی ترجیح دیتے ہیں جن کے پاس دولت کی فراوانی ہو۔ اس لیے فی زمانہ ایسے طریقے پر عمل کرنا ہر کسی لیے ممکن نہیں ہے۔ نیز فی زمانہ گھر کا انسانی بنیادی حاجات شرعیہ میں سے ہونا بھی ایک بدیکی امر ہے جو کسی سے ممکن نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک تیسری رائے بھی موجود ہے جیسے ڈاکٹر ولید صلاح الدین زیر کہتے ہیں: بعض علماء کا کہنا ہے کہ گھر میں رہائش کی حاجت اجارے سے بھی پوری ہو سکتی ہے، لہذا ایسی حاجت کی تکمیل کے لیے گھر کا ملکیت میں ہونا لازمی نہیں ہے۔ لہذا اس معاملے میں حاجت متحقق نہیں ہوتی کہ سودی قرض کی اجازت دی جائے۔ (۶۹)

۲- حاجت اُس وقت متحقق ہوگی جب اس کے بارے میں کوئی واضح نص موجود ہو، جیسے بیع سلم اور استصناع۔

۳- حاجت کے متحقق ہونے کے لیے اگر کوئی معاون نص موجود نہ ہو تو پھر اس کے تحقق کے لیے معاشرے میں اُس حاجت پر تعامل کا ہونا ضروری ہے۔ اس جگہ یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے: حضور نبی کریم ﷺ نے

-۶۸ شامي، ابن عابدين (۱۲۵۲ھ)، رد المحتار على الدر المختار (بيروت: دار الفكر، ۱۹۹۲ء) ۲: ۵۵۵۔

-۶۹ صلاح صادق، وقفات هادفة مع فتوی إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في المجتمعات الغربية (جده: دار الأندلس الخضراء، ۲۰۰۱ء)، الوقفة الرابعة، ۶۲۔

بیع غرر اور معدوم کی بیع دونوں سے منع فرمایا ہے تو پھر فقہا پھلوں کے لئے سے قبل ان کی بیع کے جواز کافتوئی کیسے دیتے ہیں؟ حالاں کہ یہ بیع غرر ہے کیوں کہ اس صورت میں بیع کے وقت پھلوں کی مقدار معلوم نہیں ہوتی۔ شیخ مصطفیٰ زرقا (۱۴۱۹ھ) اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں: احناف ان دونوں حدیثوں کی تخصیص کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ انگور کی بیلبوں اور بتدر تج پھل دینے والے تمام درختوں کے پورے موسم میں آنے والے پھلوں کی فروخت کو جائز قرار دیتے ہیں، بلکہ شرطے کہ کچھ پھلوں کی صلاحیت ظاہر ہو چکی ہو۔ لوگوں کی حاجت کو دیکھتے ہوئے مصلحت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسے پھلوں کی بیع جائز قرار دی جائے۔^(۱) اس لیے احناف "پھلوں کی صلاحیت کے اظہار کے بعد" کی شرط کے ساتھ حدیثوں کی تخصیص کرتے ہیں۔ تخصیص کے بعد یہ اجازت حدیث کی مخالفت کو لازم نہیں کرتی، کیوں کہ نہیں اس بات پر وارد ہوئی ہے کہ پھلوں کی صلاحیت کے ظاہر ہونے سے پہلے ان کی بیع جائز نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ عَلَیْهِ السَّلَامُ (۷۲۸ھ) بھی یہی کہتے ہیں: "جیسے یہ حدیث پھلوں کی صلاحیت سے قبل ان کی بیع کے عدم جواز پر دلالت کرتی ہے، بالکل اسی طرح یہ پھلوں کی صلاحیت کے ظاہر ہونے کے بعد ان کی بیع کے جواز پر بھی دلالت کرتی ہے، نیز عرف میں اب یہ مقدار معلوم متصور ہوتی ہے اس لیے یہ بیع غرر نہیں رہتی۔"^(۲)

۳- اگر نہ تو معاون نص موجود ہو اور نہ ہی تعامل تو پھر حاجت کے متحقق ہونے کے لیے نظرِ شرعیہ میں سے کسی ایسی نظریہ امثال کا موجود ہونا ضروری ہے جس کے ساتھ پیش آنے والے معاملے کا الحال کیا جاسکے۔ اس صورت میں اس حاجت پر وہی حکم لگایا جائے گا جو اس کی نظریہ امثال کا ہو گا، جیسے بیع بالوفا کا معاملہ ہے۔ بیع بالوفا میں باعث اس شرط پر مشتری کو اپنی چیز فروخت کرتا ہے کہ جب وہ ایک خاص مدت کے بعد اس چیز کی قیمت مشتری کو واپس ادا کرے گا تو وہ باعث کو بیع واپس فروخت کر دے گا۔ یہ بیع دو وجہات کی بنیاد پر ناجائز ہے؛ اول بیع عینہ ہونے کی وجہ سے؛ دوم ایک عقد بیع پر دوسرے عقد بیع کو مشروط کرنے کی وجہ سے جو کہ جائز نہیں، کیوں کہ حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں:

-۱۰- الزرقا، المدخل الفقهي العام، ۱: ۱۳۳

-۱۱- تقي الدين ابن تيميه، مجموع الفتاوى (مدينة منوره: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ۱۹۹۵ء)، ۲۹، ۱۴۱۹ھ

"نَبَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ" (حضرور نبی)

کریم ﷺ نے ایک عقد میں دو عقد کرنے سے بیع فرمایا ہے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی حضرت اللہ علیہ السلام (۱۳۲۰ھ) نے بیع بالوفا سے متعلق ایک فتوے میں کہا ہے کہ یہ بیع نہیں بلکہ رہن کے مقابلے میں ایک دین ہے جس پر نفع کمانام تہن کے لیے حرام ہے۔^(۲۴) پانچویں صدی ہجری میں اہل بخارا پر دین اس قدر زیادہ ہو چکا تھا کہ لوگ کسی منفعت کے بغیر دین دینے کے لیے راضی نہیں ہوتے تھے،^(۲۵) دین پر نفع چوں کہ سود ہوتا ہے اس لیے وہ حرام کا ارتکاب بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ منفعت لینے کی صورت یہ نکالی کہ باائع مشتری سے یہ کہے کہ وہ اس شرط پر اپنی چیز اُسے فروخت کرے گا کہ جب وہ ایک خاص مدت کے بعد اس چیز کی قیمت خریدار کو واپس ادا کرے گا تو وہ باائع کو بیع واپس فروخت کرے گا۔ اس دوران خریدار اس چیز سے استفادہ بھی کر لے گا اور جب خریدار قیمت واپس لے آئے گا تو اس کی چیز اُسے واپس کر دی جائے گی۔ اس معاملے کو بیع بالوفا کا نام دیا گیا۔ اس معاملے کے بارے میں نہ تو پہلے سے کوئی نص موجود تھی اور نہ ہی معاشرے میں اس طرح کا کوئی تعامل موجود تھا، لیکن نظائر شرعیہ میں سے اس صورت سے مشابہہ ایک نظیر رہن کی صورت میں موجود تھی کہ جس میں حاجت کے تحت مر تہن کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ رہن سے استفادہ کر لے۔^(۲۶) تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے فقہاء بر بناء حاجت اہل بخارا کے لیے اس بیع کو رہن مذکور کے منزلہ قرار دیا اور ان کو اجازت دی کہ وہ اپنی مر ہون ز میں دائن کو اس شرط پر فروخت کر دیں کہ جب وہ اس کی رقم واپس کریں گے تو اپنی ز میں واپس لے لیں گے، تب تک دائن اس ز میں سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اس طرح نظائر شرعیہ میں ایک نظیر موجود ہونے کی وجہ سے بیع بالوفا میں رخصت کے لیے حاجت موثر ہوئی۔

۵۔ اگر نہ تومعاون یا مانع نص موجود ہو، نہ تعامل ہو، اور نہ ہی مکملہ الحال کے لیے نظائر شرعیہ میں سے کوئی نظیر موجود ہو تو حاجت کے تحقیق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس حاجت میں لوگوں کے لیے منفعت

- ۲۷- مسنند احمد بن حنبل، رقم: ۳۷۸۳۔

- ۲۸- بریلوی، فتاویٰ رضویہ، ۱: ۹۰۔

- ۲۹- مجلة الأحكام العدلية، ۱: ۱۹، [حيث أنه لما كثرت الديون على أهل بخارى مست الحاجة إلى ذلك وصار مرجعاً].

- ۳۰- الشیخ احمد بن محمد الزرقا (۱۳۵۷ھ)، شرح القواعد الفقهية (مشق: دار القلم، ۱۹۸۹ء)، ۱: ۲۱۰۔

اور مصلحت موجود ہو، جیسے دراہم پر مہر لگانا ایسا معاملہ تھا کہ جس کے بارے میں نہ تو معاون یامانع نص موجود تھی، نہ اس پر تعامل تھا اور نہ ہی اس کے مشابہہ کوئی نظری موجود تھی، تاہم اس میں لوگوں کے لیے بہتری اور مصلحت تھی، اس لیے حاجت کے سبب دراہم پر مہر لگانے کی اجازت دی گئی۔

-۶ اسی طرح اگر حاجت کے تحقیق ہونے کے لیے مندرجہ بالا اسباب میں سے کوئی ایک سبب بھی موجود نہ ہو اور نہ ہی اُس حاجت میں کسی قسم کی مصلحت ہو تو ایسی صورت میں شریعت کے ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے اُس حاجت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس پر شرعی رخصت نہیں دی جائے گی، کیوں کہ ایسی حاجت مقاصدِ شریعت پر منطبق نہیں کی جاسکتی کہ جس کا نہ تو سبب ہو اور نہ ہی کوئی فائدہ اور مصلحت، جیسے علامہ ابن ہمام رض کہتے ہیں : "إن نفي المدرك الشرعي يكفي كنفي الحكم الشرعي".^(۷۱) (حکم شرعی کی نفی کے لیے دلیل شرعی کی نفی کافی ہوتی ہے)۔

-۷ اگر حاجت کے تحقیق ہونے کے خلاف کوئی مانع نص موجود ہو تو پھر اُس حاجت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا خواہ اُس میں کتنی ہی مصلحت کیوں نہ ہو،^(۷۲) جیسے گھر خریدنے کے لیے سودی قرض کی اجازت نہیں دی جاسکتی کیوں کہ سودی قرض کی ممانعت پر نص وارد ہوئی ہے۔

-۸ حاجت کی صورت میں مستفاد رخصت دائی ہوتی ہے،^(۷۳) جیسے بیع سلم اور استصناع کے جواز کی رخصت دائی ہے۔

حاجت کا ضرورت کے قائم مقام ہونا

امام الحرمین جوینی رض^(۷۴) کے نزدیک صرف وہ حاجت ہی ضرورت کے قائم مقام بن سکتی ہے جو عام ہو^(۷۵) جب کہ امام ابن حثیم رض^(۷۶) یہ فقہی قاعدة بیان کرتے ہوئے حاجت خاصہ کو بھی شامل

-۷۶ - کمال الدین محمد ابن الہام، فتح القدیر (بیروت: دار الفکر)، ۷: ۸۱۔

-۷۷ - الشیخ احمد بن محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهیة (دمشق: دار القلم، ۱۹۸۹ء)، ۱: ۲۱۰۔

-۷۸ - الزحلی، نظریۃ الضروریۃ الشرعیۃ، ۲: ۲۷۵-۲۷۷۔

-۷۹ - الجوینی، البرهان فی أصول الفقه، ۲: ۲۹۔ [الحاجة العامة ولا ينتهي إلى حد الضرورة.]

کرتے ہیں: "الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزَلَةَ الْصُّرُورَةِ، عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً" (۸۰) (حاجت خواہ عام ہو یا خاص ضرورت کے قائم مقام بن جاتی ہے)۔ علامہ ابن القیم عَلیْهِ السَّلَام (۷۵۱ھ)، امام ابو سعید شاطبی عَلیْهِ السَّلَام (۷۹۰ھ)، طاہر بن عاشور عَلیْهِ السَّلَام (۱۲۷۶ھ)، شیخ مصطفیٰ زرقا (۱۳۱۹ھ)، وہبہ زیلی (۱۳۳۶ھ)، محمد حسین الجیزی، احمد کافی (۲۰۰۳) اور دیگر فقہاء اصولیین بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ حاجت خواہ عام ہو یا خاص وہ کبھی ضرورت کے قائم مقام بھی بن جاتی ہے اور اس پر ضرورت کے احکام کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ پچان کرنا فقهہ اور اصول فقهہ کے ماہرین علماء کام ہے کہ کون سی حاجت ضرورت کے قائم مقام بنتی ہے اور کون سی نہیں، تاہم فقہانے اس بارے میں جو فقہی اور اصولی مباحث کی ہیں ان کا خلاصہ مندرجہ ذیل تین نکات میں بیان کیا جاتا ہے۔

-۱ ضرورت کے قائم مقام ہونے کے لیے حاجت میں اُن شرائط میں سے پہلی پانچ شرطوں میں سے کسی ایک شرط کا پایا جانا لازمی ہے جو اپر "حاجت کا تحقیق اور شرعی رخصت" کے باب کے تحت بیان کی گئی ہیں۔

-۲ حاجت بمنزلہ ضرورت رخصت کے حصول میں وقت اور مقدار کے اعتبار سے ضرورت کی طرح موثر و محدود ہوگی۔ اسی بنا پر یہ فقہی قاعدہ متعارف کرایا گیا ہے: "الْحَاجَةُ تُقْدَرُ بِقَدْرِهَا" (۸۱) (حاجت بقدر حاجت ہی معین ہوگی)۔

-۳ ضرورت دو طرح کی حرام چیزوں کے استعمال یا ریکاب میں رخصت کا سبب بنتی ہے: حرام لذاتہ اور حرام لغیرہ۔ جب کہ حاجت بمنزلہ ضرورت صرف حرام لغیرہ میں موثر ہوتی ہے۔ علامہ ابن القیم عَلیْهِ السَّلَام (۷۵۱ھ) کہتے ہیں: "فَإِنْ مَا حَرَمْ سَدًا لِلذِّرِيْعَةِ أَخْفَ مَا حَرَمْ تَحْرِيمَ الْمَقَاصِدِ" (۸۲) (سدِ ذارع کی بدولت حرام قرار دی گئی چیز کی حرمت اُس چیز کی حرمت سے کم ہے جو کہ مقاصدِ شریعہ کے منافی ہونے کی وجہ سے حرام قرار پائی ہو)۔ علامہ محمد بن عبد اللہ الخرشی

-۸۰ ابن نبیم، الأشباه والنظائر، ۷۳۔

-۸۱ الموسوعة الفقهية الكويتية (الکویت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، ۱۴۲۷ھ، ۱۶: ۲۵۸)۔ [یہ قاعدہ حاجت بمنزلہ ضرورت کے لیے ہے]۔

-۸۲ محمد بن ابو بکر ابن القیم، إعلام الموقعن عن رب العالمين (بیروت: دار الكتب العلمیة، ۱۹۹۱ء)، ۲، ۷: ۱۰۷۔

ماکی عَنْ اللّٰهِ (۱۱۰۱ھ) کہتے ہیں: "أَنَّ مَا حَرُمَ لِذَاتِهِ أَشَدُ مِمَّا حَرُمَ لِسَيِّءِ آخَرَ" (حرام لذاته میں حرام لغیرہ کی نسبت زیادہ شدت [کی حرمت] ہوتی ہے)۔ شیخ محمد ابو زہرہ عَنْ اللّٰهِ (۱۳۹۳ھ) لکھتے ہیں: "فاحرام لذاته ماقصد الشارع إلى تحريم لما فيه من ضرر ذاتي كأكل الميتة وشرب الخمر والزنا و السرقة" (حرام لذاته: وہ چیز جس کی ذات میں ضرر کی وجہ سے شارع نے اُسے حرام قرار دیا ہو جیسے مردار کا کھانا، شراب پینا، زنا، اور چوری)۔ جب کہ حرام لغیرہ وہ ہوتا ہے، جو اپنی ذات کے اعتبار سے ضرر نہیں رکھتا، لیکن حرام لذاته کی طرف لے جاتا ہے، (۸۴) جیسے مشروط فائدے کے عوض قرض بھی حرام لغیرہ ہے، کیوں کہ قرض اپنی ذات میں ایک مستحسن امر ہے، لیکن چوں کہ مشروط فائدہ ربا ہے اس لیے ایسا قرض حرام لغیرہ ہے۔ بیچ عینہ بھی حرام لغیرہ کی مثال ہے کیوں کہ یہ تو صرف ایک بیچ ہے جو جائز ہے لیکن یہ ربا کی طرف لے جاتی ہے اس لیے یہ بیچ ربوی ہونے کی وجہ سے حرام لغیرہ ہے۔ شیخ محمد ابو زہرہ عَنْ اللّٰهِ (۱۳۹۳ھ) حرام لغیرہ کی ایک دوسری صورت بھی بیان کرتے ہیں کہ کبھی ایک جائز امر کسی خارجی سبب سے حرام ہو جاتا ہے، اُسے بھی حرام لغیرہ کہا جاتا ہے، جیسے نماز جمعہ کے وقت خرید و فروخت کرنا، حالاں کہ خرید و فروخت ایک جائز کام ہے جو ایک خارجی سبب جمعہ کی نماز کے سبب حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسرے کے سودے پر سودا کرنا بھی حرام لغیرہ کی مثال ہے۔ ضرورت حرام لذاته اور حرام لغیرہ دونوں میں رخصت کا سبب بنتی ہے، لیکن حاجت صرف حرام لغیرہ میں رخصت کافائدہ دیتی ہے۔ (۸۵)

-۸۳- محمد بن عبد اللہ ماکی الخراشی، شرح مختصر خلیل، (بیروت: دار الفکر للطباعة)، ۲: ۳۶۲۔

-۸۴- ابو زہرہ، أصول الفقه، ۳۶-۳۷۔

-۸۵- نفس مرجح، ۳۵-۳۶۔

استقر اسے بتا چلتا ہے کہ حاجت صرف ان معاملات میں رخصت کا فائدہ دیتی ہے جہاں اصولی قواعد کی خلاف ورزی لازم آتی ہو، جب کہ حاجت بمنزلہ ضرورت حرام لغیرہ میں رخصت کا فائدہ دیتی ہے، جیسے ربوبی قرض^(۸۲) اور بیع العرایا^(۸۳) کی امثلہ؛ کیوں کہ اگر یہ امور صرف عام حاجت کی بنابر جائز قرار دیے جائیں تو پھر ان میں دوامی رخصت بھی دینی پڑے گی، کیوں کہ عام حاجت دوامی رخصت کا فائدہ دیتی ہے، لیکن یہاں یہ ایسا کرنا ناجائز ہو گا اور شرعی ممانعت میں سرکشی کے مترادف ہو گا، اس لیے ان امور میں صرف اُس حاجت کی بدولت ہی رخصت دی جائے گی جو بمنزلہ ضرورت ہو، چون کہ ضرورت میں رخصت عارضی اور محدود ہوتی ہے، اس لیے حاجت بمنزلہ ضرورت والے امور میں بھی عارضی اور محدود رخصت ہی مستقاد ہو گی۔

ضرورت اور حاجت میں فرق

بعض فقهاء ضرورت اور حاجت کو مترادف معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، کیوں کہ اُن کے نزدیک نفس مشقت کے اعتبار سے دونوں ہم معنی ہیں، لیکن اصطلاحی اعتبار سے وہ بھی دونوں میں فرق کرتے ہیں بایں طور کہ ضرورت میں اعلیٰ درجے کی مشقت ہوتی ہے جب کہ حاجت میں کم درجے کی مشقت ہوتی ہے، جیسے امام سرخسی^{رحمۃ اللہ علیہ} (۸۴) ایک فقہی قاعدة لکھتے ہیں: "لَاَنَّ الْصَّرُورَةَ تُبَيِّحُ التَّنَاؤلَ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ" (۸۵) یہاں بقدر الحاجة سے مراد بقدر الضرورۃ ہے۔ یہاں امام سرخسی^{رحمۃ اللہ علیہ} نے حاجت کو ضرورت کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ لیکن درحقیقت یہ دونوں تصور ایک دوسرے سے قدرے مختلف ہیں۔ ضرورت اور حاجت کی تعریفات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان دونوں میں احکام شرعیہ کے اعتبار سے

- ۸۶ - الزحلی، نظریۃ الضروریۃ الشرعیۃ، ۲۷۶۔

- ۸۷ - ابن القیم، إعلام الموقعين، ۲: ۱۰؛ بیع العرایا کی اصطلاحی تعریف یہ ہے: کھجور کے درخت پر موجود تر کھجور کا اندازہ کر کے خشک کھجور کے بد لے خریدنا، حالاں کہ کھجور کی ایسی بیع ناجائز ہے تو بر بنائے حاجت بیع العرایا کی رخصت دی گئی۔ سیدنا سہل بن ابی حمہ^{رض} سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے تازہ کھجور کی خشک کھجور کے ساتھ بیع سے منع فرمایا ہے لیکن عرایا کی رخصت دی ہے کہ انسان تازہ کھجور کا اندازہ کر کے خشک کھجور کے بد لے خرید لیں تاکہ وہ لوگ تازہ کھجور کھا سکیں۔ (سنن أبي داؤد، كتاب البيوع، باب في بيع العرایا، (بیروت: المکتبۃ العصریۃ)، رقم: ۳۳۶۳)

- ۸۸ - محمد بن احمد السرخسی، المسوط، (بیروت: دار المعرفة، ۱۹۹۳ء)، ۹: ۱۲۰۔

فرق کیا گیا ہے، جیسے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (۷۲۸ھ) کہتے ہیں: "وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْضَّرُورَاتِ وَالْحَاجَاتِ مَعْلُومٌ فِي كَثِيرٍ مِنْ الشَّرِيعَاتِ" ^(۸۹) (شریعت کے اکثر احکامات سے ضرورت و حاجت میں فرق نظر آتا ہے)۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (۷۲۸ھ) اور دیگر فقهاء اصولیین کے علمی مقام کے پیش نظر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ فرق واضح تھا۔ وہ دونوں اصطلاحوں کو ایک دوسرے کے معنی میں استعمال کرتے تھے اور کبھی ایک ہی قاعدے میں دونوں اصطلاحیں بھی استعمال ہوتی تھیں، لیکن دونوں سے مراد کوئی ایک ہی ہوتی تھی، جیسے امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ (۳۸۳ھ) اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ (۹۱۱ھ) کے مندرجہ بالا بیان کردہ فقہی قواعد سے ظاہر ہوتا ہے۔ فقهاء اور اصولیین نے ضرورت و حاجت کی مختلف تعریفات کی ہیں جو مبتدی کے ذہن کو الجھادیتی ہیں، کیوں کہ ایک تعریف کسی چیز کو ضرورت کے دائرة کار میں لا تی ہے تو دوسری تعریف اُسے حاجت عامہ قرار دیتی ہے۔ فی زمانہ مختلف شعبہ ہائے حیات میں سے اسلامی مالیات ہی کو لے لیں جس میں محققین اور ناقدین دونوں ضرورت و حاجت سے متعلق ایک الجھن کا شکار نظر آتے ہیں، اس لیے یہاں مختلف فقہی آراء کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت و حاجت کے مابین فرق کو مختصر ابیان کیا جاتا ہے جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

- ۱ ضرورت و حاجت کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ ضرورت پر عمل نہ کرنے سے مقاصدِ شریعت کے فوت ہونے کا امکان ہوتا ہے، جب کہ حاجت کے معدوم ہونے سے مقاصدِ شریعت میں صرف خلل پیدا ہوتا ہے، تاہم ان کے فوت ہونے کا خدشہ نہیں ہوتا۔
- ۲ ضرورت احکام شریعہ میں عارضی نوعیت کی رخصت کا فائدہ دیتی ہے، جب کہ حاجت دائیٰ رخصت کا فائدہ دیتی ہے۔ ^(۹۰) شیخ مصطفیٰ زرقا (۱۴۱۹ھ) ^(۹۱) اور وہبہ زحلی ^(۹۲) (۱۴۳۶ھ) بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ ^(۹۳)
- ۳ ضرورت کی صورت میں حرام شے کے ارتکاب کی رخصت مقدار کے اعتبار سے محدود ہوتی ہے، جیسے کہ فقہی قاعدہ ہے: "الضرورات تقدر بقدرها" ^(۹۴) (ضرورتیں صرف بقدر ضرورت ہی

-۸۹ ابن تیمیہ، مجموع الفتاویٰ، ۲۱: ۵۲۷۔

-۹۰ شیخ احمد الزرقا، شرح القواعد الفقهیہ، ۲۰۹۔

-۹۱ الزرقا، المدخل الفقہی العام، ۲: ۱۰۰۔

-۹۲ الزحلی، نظریۃ الضروریۃ الشرعیۃ، ۲: ۲۷۵۔

-۹۳ محمد صدقی بن احمد، الوجيز في إيضاح قواعد الفقهية الكلية (بیروت: مؤسسة الرسالة، ۱۹۹۶ء)، ۲۳۹۔

مقدر ہوتی ہیں)۔ اسی طرح حرام شے کا یہ ارتکاب وقت کے اعتبار سے بھی محدود ہوتا ہے، جیسے امام ابن نجیم عَنْ عَلِيٍّ (۷۹ھ) نے یہ فقہی قاعدہ بیان کیا ہے: "مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ" (۹۳) (جو چیز کسی عذر کی وجہ سے جائز ہوتی ہے وہ عذر کے ختم ہونے کے ساتھ باطل بھی ہو جاتی ہے)۔ اس پر تصریح کرتے ہوئے شیخ احمد الزرقا (۱۳۵۴ھ) (۹۵) لکھتے ہیں: "أَنَّ إِبَاحةَ الْمُحْظُورِ لِلضُّرُورَةِ مُقْيَدَةٌ بِمَدَدِ قِيامِ الضُّرُورَةِ" (۹۶) (ضرورت کے پیش نظر مباح کی گئی چیز کی اباحت صرف ضرورت کے قائم رہنے تک ہی مقید ہوتی ہے) جب کہ حاجت میں مقدار اور وقت دونوں کی قید نہیں ہوتی۔

۹۳ - علامہ ابن القیم عَنْ عَلِيٍّ (۷۵۱ھ) کے نزدیک حاجت صرف انہی ممنوع امور کے ارتکاب میں رخصت دیتی ہے جو سدّ ذرائع کے تحت ممنوع قرار پائے ہوں، جب کہ ضرورت ان ممنوع امور میں رخصت پیدا کرتی ہے جن کی ممانعت واضح نص سے ثابت ہو۔ اس بارے میں وہ بیع العرایا کی مثال پیش کرتے ہیں کہ جس میں حاجت کی بناء پر رخصت دیتے ہوئے ربا الفضل کے احکام کا اطلاق نہیں کیا گیا؛ یہاں ربا الفضل کے احکام میں حاجت موثر ہوئی، کیوں کہ ربا الفضل کو سدّ ذرائع کی بناء پر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ (۹۷) امام قرآنی مالکی عَنْ عَلِيٍّ (۲۸۲ھ) کہتے ہیں: "أَنَّ الدَّرِيَةَ كَمَا يَحِبُّ سَدُّهَا يَحِبُّ فَتْحُهَا" (۹۸) (جیسے کسی ذریعے کا سدّ باب واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا جواز بھی واجب ہوتا ہے)۔

- ۹۴ - ابن نجیم، الأشیاء والناظائر، ۲، ۷۔

۹۵ - آپ کا نام احمد بن محمد بن عثمان الزرقا ہے۔ آپ ۱۲۸۵ھ کو ملک شام کے شہر حلب میں پیدا ہوئے۔ آپ نے قرآن مجید کے حفظ کے بعد اپنے والد اور دیگر مشائخ سے دینی علوم حاصل کیے۔ آپ نے رُدُّ المحatar علی الدُّرُّ المختار، تبیین الحقائق علی کنز الدقائق اور بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جیسی کتب اپنے والد سے پڑھیں۔ آپ ایک قابل اور جید فقیر تھے۔ اپنے دور کے جدید مسائل پر بڑے فقیہانہ انداز میں قلم اٹھایا۔ فقہی اصول و قواعد پر شرح القواعد الفقهیہ جیسی عمدہ کتاب تحریر کی۔ آپ کی وفات حلب میں ۱۳۵۷ھ کو ہوئی۔ علامہ ظنطاوی نے زرقاء خاندان کو سلسلة الذهب کا نام دیا۔

[http://naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=readTragm&pg_id=45655]

- ۹۶ - شیخ احمد زرقا، شرح القواعد الفقهیہ، ۱۸۹۔

- ۹۷ - ابن القیم، إعلام الموقعين، ۲، ۷۔

- ۹۸ - شہاب الدین احمد المالکی القرانی، الفروق: أنوار البروق في أنواع الفروق (عالم الكتب)، ۲، ۳۳۔

جو از کے وجوب سے امام قرآنی کا اشارہ حاجت کی طرف ہے بایں طور کہ حاجت ہی ایسے ذرائع کے جواز کی موجب بنتی ہے، کیوں کہ جب مفسدہ کے پیش نظر کسی امر کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے تو بعض اوقات کسی بڑی مصلحت کے پیش نظر اُسی امر کی اجازت بھی دے دی جاتی ہے، جیسے ابن القیم عَلَیْهِ السَّلَامُ نے العرایا کی مثال بیان کرتے ہیں۔

شیخ مصطفیٰ الزرقا (۱۴۲۹ھ) کے نزدیک ضرورت ان چیزوں میں رخصت کا فائدہ دیتی ہے جن کی ممانعت قرآن و سنت سے ثابت ہو، جب کہ حاجت ان معاملات میں رخصت کا فائدہ دیتی ہے جو قرآن و سنت کے منافی تو نہیں ہوتے تاہم دیگر فقہی اصول و قواعد کی بنیاد پر ممنوع قرار پاتے ہیں، (۹۹) جیسے اجرہ اور سلم۔^۵

ضرورت حاجت کو شامل ہوتی ہے یعنی حاجت کا اثر ضرورت کے دائرة کار میں آتا ہے، لیکن اس کے بر عکس نہیں ہے، اسی لیے علامہ شاطبی عَلَیْهِ السَّلَامُ (۷۹۰ھ) کہتے ہیں کہ ضرورت حاجت کے لیے اصل کا درجہ رکھتی ہے بایں طور کہ اگر ضرورت میں خلل واقع ہو جائے تو حاجت اس سے متاثر ہوتی ہے، لیکن حاجت میں خلل عام طور پر ضرورت کو لازمی طور پر متاثر نہیں کرتا، مگر کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے؛ اس لیے ضرورت کی خاطر حاجت اور تحسینیات کی حفاظت کی جانی چاہیے۔^(۱۰۰)

حاجت ضرورت کے قائم مقام ہونے کے باوجود ضرورت کے برابر نہیں ہوتی، کیوں کہ حاجت منزلہ ضرورت حرام لذاته میں موثر نہیں ہوتی، جب کہ ضرورت حرام لذاته اور حرام لغیرہ دونوں میں موثر ہوتی ہے۔^۷

اس تمام بحث سے یہ ثابت ہو گیا کہ ضرورت و حاجت دو الگ تصور ہیں، دونوں کی اپنی شرعاً اور جد اگانہ احکام ہیں۔ جدید اسلامی مالیات سے متعلق محققین اور ناقدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تحقیق و تنقید میں ضرورت و حاجت کے ان اصول و ضوابط اور ان کے مابین موجود فرق کو ملاحظہ کریں۔ جبیل محمد بن مبارک کہتے ہیں: ضرورت پر حاجت کا اطلاق نقصان نہیں دیتا، البتہ حاجت کی جگہ پر ضرورت کا حکم لگانا مضر ہے۔^(۱۰۱) وہہبہ

- ۹۹ - الزرقا، المدخل الفقهي العام، ۲: ۱۰۰-۱۰۱۔

- ۱۰۰ - الشاطبی، المواقفات، ۲: ۳۱۔

- ۱۰۱ - جبیل محمد بن مبارک، نظریة الضرورة الشرعية: حدودها وضوابطها (قاهرہ: دار الوفاء للطباعة والنشر، ۱۹۸۸ء)۔

زحلی (۱۴۳۶ھ) کہتے ہیں: "ہمارے زمانے میں کچھ لوگوں نے سودی بینکوں اور تجارتی کمپنیوں کے ساتھ سودی قرض کے معاملے کو بھی ضرورت کے فقہی قاعدے کی بنیاد پر جائز قرار دیا ہے، حالاں کہ یہ دیکھا جانا چاہیے تھا کہ آیا یہاں ضرورت متحقق بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سودی قرض صرف حاجت کے زمرے میں آتے ہوں۔"^(۱۰۲) اسی طرح تامین (سودی انشورنس) کے بارے میں بھی زحلی رحمۃ اللہ علیہ یہی رائے دیتے ہیں۔^(۱۰۳) ماجد محمد کہتے ہیں: "مکافل آپریٹر بھی ضرورت شرعیہ کے فقہی اصولوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں بایں طور کر مکافل کمپنیاں ضرورت کے تحت روایتی ری انشورنس (Reinsurance) کمپنیوں سے اپنے معاملات کے سلسلے میں انشورنس کور (Insurance Cover) کی سہولت لیتی ہیں، حالاں کہ یہ ضرورت شرعیہ میں سے نہیں ہے۔"^(۱۰۴) چوں کہ ضرورت و حاجت کے ضابطے صرف مقاصدِ شریعت کی روشنی میں ہی مؤثر ہوتے ہیں، اس لیے اسلامی بینکاری سے وابستہ محققین، ناقدین، شریعہ ایڈ وانزرز، مالیاتی انجینئر اور دیگر متعلقہ افراد کے لیے مقاصدِ شریعت کی صحیح تفہیم کے ساتھ ضرورت و حاجت کے شرعی اصول و ضوابط کو سمجھنا بھی از بس ضروری ہے، تاکہ اسلامی بینکاری کو شریعت اسلامیہ سے مکمل طور پر ہم آہنگ کیا جاسکے۔

مروجہ اسلامی مالیات میں حاجت کے قواعد کا استعمال

اگر عصر حاضر کے مالی معاملات خواہ وہ فرد کی سطح پر ہوں یا اداراتی سطح پر ان کا تجربہ کیا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ معاملات ضرورتِ شرعیہ کی حد تک بہت نادر صورتوں میں پہنچتے ہیں، تاہم بہت سے معاملات میں حاجتِ شرعیہ کثرت سے متحقق ہوتی ہے اور معاصر فقهاء و محققین زیادہ تر معاملات میں حاجت کے قواعد کا استعمال کرتے ہیں۔ ذیل میں چند اہم مالی معاملات کا ذکر اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ جن میں حاجتِ شرعیہ کی بنیاد پر جواز کا فتویٰ دیا گیا ہے۔

۱. مراجحہ الامر بالشراء میں کلانٹ کو کیل بنانا: مراجحہ الامر بالشراء میں اسلامی بینک اپنے کلانٹ کو اُس کی مطلوبہ چیز کی خریداری کے لیے اپناو کیل نام زد کرتا ہے کیوں کہ جو چیز اُس نے خریدنی ہے وہ زیادہ بہتر جانتا

- ۱۰۲ - الزحلی، نظریہ الضروریۃ الشرعیۃ، ۲۳۵-۲۳۶۔

- ۱۰۳ - نفس مرجع، ۲۳۷۔

104- Interview: Special column with adjunct professor of fem: datoy majid mohamad, Muamlat, the newsletter of the faculty of Economics and Muamlat, University SAINS Islam Malaysia, 10 (1), 12.

ہے۔ اس طرح وہ چیز اُسی کو مرا بھے پر فروخت کرنے میں کسی قسم کا خطرہ بھی نہیں ہو گا، لیکن فقہا کہتے ہیں کہ کلاںٹ کو وکیل بنانا درست نہیں ہے کیوں کہ اس سے ایک ہی شخص کا بالع اور مشتری ہونا لازم آتا ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔^(۱۰۵) یہ عدم جواز کسی مانع نص کی بنابر نہیں ہے بلکہ ایک فقہی اصول کی مکمل خلاف ورزی کے شہبہ کی بنابر ہے اور وہ فقہی اصول یہ ہے کہ ایک ہی فریق فروخت کنندہ اور خریدار نہیں ہو سکتا۔^(۱۰۶) لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ اگر اسلامی بینک کلاںٹ کے بجائے کسی تیسرے آدمی کو چیز کی خریداری کا وکیل بنائے گی تو یہ خطرہ موجود رہے گا کہ اگر وہ چیز کلاںٹ کو پسند نہ آئی تو وہ لینے سے انکار کر دے گا جو کہ کلاںٹ اور اسلامی بینک دونوں کے مالی مصالح کے بھی خلاف ہے، لہذا یہاں اسلامی بینک کی جانب سے کلاںٹ کو وکیل بنانا ایک ایسی حاجت ہے جو بمنزلہ ضرورت ہے، اسی لیے فقہا اس بارے میں شرعی رخصت کے لیے حاجت کا سہارا لیتے ہیں۔^(۱۰۷) چوں کہ یہ حاجت بمنزلہ ضرورت ہے، اس لیے یہ صرف محدود اعتبار سے موثر ہو گی یعنی اگر اس طرح کی حاجت تحقق نہ ہوتی ہو تو پھر کلاںٹ کو وکیل بنانا درست نہیں ہو گا، تاہم فقہا کچھ اضافی شرائط بھی عائد کرتے ہیں کہ کلاںٹ بطور وکیل چیز خریدنے کے بعد وہ چیز اسلامی بینک کے متعلقہ آفسر کے حوالے کرے گا اور خریداری کی رسیدیں، چیز کے دیگر کاغذات وغیرہ بھی پیش کرے گا اور اس کے بعد وکیل نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اسلامی بینک اور کلاںٹ میں اُس چیز کی خریداری کے لیے ایجاد و قبول ہو گا، اس طرح یہ معاملہ شریعت کے اصولوں کے مطابق رہے گا۔

۲۔ مختلف عقود میں مالی جرمانہ: اسلامی بینکوں میں عقد کے وقت معاهدے میں یہ بات شامل کری جاتی ہے کہ اگر کلاںٹ الیت کے باوجود بر وقت ادا نیگی نہ کر سکا تو وہ ایک مخصوص رقم خیر اتی فنڈ (Charity Fund) میں چندے کے طور پر ادا کرے گا۔ اس کے لیے بینک میں ایک خیر اتی اکاؤنٹ (Charity fund Account) قائم کیا جاتا ہے۔ اسے اجراری صدقہ یعنی زبردستی کا صدقہ بھی کہا جاتا ہے جو در حقیقت ایک

-۱۰۵ - المعايير الشرعية (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ۲۰۱۰ء)، معيار نمبر: ۸،

مراقبہ للأمر بالشراء، دفعہ نمبر: ۹۵، ۳/۱/۹۵۔

-۱۰۶ - علاء الدين ابو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (بيروت، دار الكتب العلمية،

۱۹۸۶ء)، ۲:۳۱۔

-۱۰۷ - المعايير الشرعية، معيار نمبر: ۸، مراقبہ للأمر بالشراء، دفعہ نمبر: ۱/۳/۹۵۔

مالی جرمانہ ہے اور شرع میں مالی جرمانہ جائز نہیں ہے۔ امام عظیم ابو حنفہ، امام محمد اور دیگر فقہا کے نزدیک تعزیر بالمال ناجائز ہے۔^(۱۰۸) اجباری صدقے (تعزیر بالمال) کا یہ اقدام اگرچہ غیر شرعی ہے مگر بینک ایسا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیوں کہ اگر اجباری صدقے کا خوف نہ ہو تو شاید بینک کو کبھی پیسہ و صولہ ہی نہ ہو، البتہ مجمع الفقهاء الاسلامی جدہ نے صرف ایسے عقود میں مالی جرمانے کی شرط عائد کرنے کی اجازت دی ہے، جن میں ادائیگی کے واجبات کسی خرید و فروخت یا اشیا کے تبادلے کی بدولت پیدا ہوئے ہوں^(۱۰۹) اور ان واجبات کی ادائیگی میں کلاسٹ کی جانب سے تاخیر کا خطراہ لاحق ہو، جیسے استصناع کے عقد میں صانع پر جرمانے کی شتم شامل کی جاسکتی ہے کہ اگر کلاسٹ نے جان بوجھ کروقت مقررہ پر بیع (مصنوع) مہیانہ کی تو اس پر یہ شتم عائد ہوگی۔^(۱۱۰)

المعاییر الشرعیہ (۲۰۱۰) کے مطابق قرض کے معاملے میں یہ شرط لگانے کی اجازت نہیں ہے۔^(۱۱۱) اسلامی مالیاتی ادارے اور کلاسٹ کے مابین چوں کہ ادھار خرید و فروخت کے نتیجے میں دین واجب ہوتا ہے اور یہ ایک فطری امر ہے کہ مدین کی ادائیگی میں لیت و لحل سے کام لیتا ہے، جب کہ دائن وقت مقررہ پر اپنے دین کی وصولی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ فی زمانہ جب کہ اعتماد کو کافی ٹھیں پہنچی ہے، اسلامی مالیاتی ادارے اپنے مال کے تحفظ کے لیے کافی فکر مند نظر آتے ہیں، اس لیے اُن کے مالی تحفظ کی حاجت کا لحاظ کرتے ہوئے عقد میں مالی جرمانے کی شتم شامل کرنے کی اجازت دی گئی؛ چوں کہ یہ حاجت بمنزلہ ضرورت ہے اس لیے یہ محدود وقت تک کے لیے ہی معتبر ہوگی، جیسے ہی حاجت ختم یہ شرط بھی ختم، جیسے مجمع الفقهاء الاسلامی جدہ نے مالی جرمانے سے متعلق قرارداد میں یہ شتم پاس کی: "لَا يُعْلَمُ بِالشَّرْطِ الْجُزَائِيِّ إِذَا أَثْبَتَ مِنْ شُرُطِ عَلَيْهِ أَنَّ إِخْلَالَهُ بِالْعَدْدِ كَانَ بِسَبِّبِ خَارِجٍ عَنْ إِرَادَتِهِ، أَوْ أَثْبَتَ أَنَّ مِنْ شُرُطِ لَهُ لَمْ يَلْحِقْهُ أَيِّ لِشَرْطِ الْجُزَائِيِّ۔" [۱۱۲]

- ۱۰۸ - ابن الہام، فتح القدير (بیروت: دارالفکر)، ۵: ۳۲۵

- ۱۰۹ - القرارات لمجمع الفقه الإسلامي، (۱۰۹/۲۵) قرارداد: ۱۰۹ (۱۲/۳) : بشأن موضوعاً لشرط الجزائي۔ [یہ قرارداد اس لئک پر دیکھی جاسکتی ہے:

[<http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/12-3.htm>]

- ۱۱۰ - المعاییر الشرعیة، معيار نمبر: ۱۱، مستند الأحكام الشرعية، ما يطرأ الاستصناع، ۱۵۶۔

- ۱۱۱ - نفس مرجع۔

ضرر من الإخلال بالعقد" (۱۱۲) (جب کلاسٹ یہ ثابت کر دے کہ اس عدم ادیگی کی وجہ اس کے بس میں نہیں تھی، یا یہ کہ عقد کی خلاف ورزی کی وجہ سے بینک کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا تو مالی جرمانے کی شق غیر مؤثر ہو جانی چاہیے۔) اس کے علاوہ یہ شرط بھی عائد کی جاتی ہے کہ جرمانے کی یہ رقم بینک کی ملکیت نہیں ہو گی، (۱۱۳) بلکہ کسی مدرسے یا خیر اتی ادارے یا تعلیمی اداروں میں ضرورت مند طلباء کو علمی وظائف کی صورت میں دی جائے گی۔

۳. کرنٹ اکاؤنٹ: فی زمانہ سیکیورٹی حالات تسلی بخش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنی دولت کو گھروں میں نہیں رکھتے، کیوں کہ جہاں مال کے لئے کاغذ شہ ہوتا ہے وہیں جان جانے کا خوف بھی دامن گیر رہتا ہے۔ زمانہ ماضی میں انھی خدشات کی بدولت علا لوگوں کو اجازت دیتے رہے ہیں کہ وہ حاجت بمنزلہ ضرورت کے تحت سودی بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ میں اپنی دولت رکھو سکتے ہیں۔ اگر سودی بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ کو جائز قرار دینے پر حاجت متحقق ہو سکتی ہے تو پھر اسلامی بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ کو اسی حاجت کے تحت جائز قرار دینے میں کیا چیز مانع ہے؟ حالاں کہ سودی بینکوں میں رقم رکھانا ایک اعتبار سے برائی کے معاملات میں تعاون کے زمرے میں بھی آتا ہے جب کہ اسلامی بینکوں میں ایسا کوئی شایبہ تک نہیں، نیز اسلامی بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ کے جواز میں حاجت کے مؤثر ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ نظائر شرعیہ میں ایک ایسی نظر موجود ہے جس کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ کے جواز کا الحال ممکن ہے اور اس نظر کا خلاصہ کچھ یوں ہے: لوگ رقم لٹ جانے کے خوف سے حضرت زیر العوام رضی اللہ عنہ کے پاس امانت رکھنے آتے تھے لیکن حضرت زیر العوام رضی اللہ عنہ لوگوں سے امانت کی بجائے قرض کی بنیاد پر رقم قبول کرتے تھے، حالاں کہ وہ لوگوں سے اس کا مطالبه بھی نہیں کرتے تھے۔ حضرت زیر رضی اللہ عنہ ایک تاجر ہونے کی وجہ سے اُس رقم کو تجارت پر لگانا چاہتے تھے لیکن وہ اُن رقم کو امانت ہونے کی وجہ سے استعمال نہیں کر سکتے تھے، جیسے بخاری شریف میں ہے: "أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ، فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَاهُ، فَيُقُولُ الرَّبِيعُ: لَا وَلَكِنَّهُ سَلَفُ، فَإِنِّي أَحْشَى عَلَيْهِ

-۱۱۲- القرارات لمجمع الفقه الإسلامي، حوله سابق۔

-۱۱۳- المعايير الشرعية، معيار نمبر: ۸، مراقبة للأمر بالشرع، دفعه نمبر: ۵/۶، ۹۷-۹۸، ۷-

الصَّيْعَةَ^(۱۱۳) (حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس جب کوئی آدمی آتا اور عرض کرتا کہ وہ اپنا مال اُن کے پاس امانت رکھنا چاہتا ہے تو آپ فرماتے نہیں، تمہارا مال میرے پاس قرض ہے کیوں کہ مجھے امانت کے ضائع ہونے کا خوف ہے)۔ رقوم کو بطور امانت قبول کرنے میں دو مسائل کا سامنا ہوتا: ایک یہ کہ لوگوں کو ہر وقت اپنی امانتوں کے ضیاع کا خطرہ رہتا کیوں کہ امانت کے ضیاع کی صورت میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ضامن نہ ہوتے اور وہ تقسان لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا؛ دوسرا مسئلہ خود حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے بتا کیوں کہ وہ اُن امانتی رقوم کو استعمال میں نہ لاسکتے حالاں کہ وہ ایک تاجر تھے اور ان رقوم سے تجارت کرنا چاہتے تھے۔ ان دونوں مسئللوں کا حل صرف یہ تھا کہ وہ لوگوں سے اُن کی رقوم امانت کی بجائے قرض کی صورت میں لیں، چنانچہ انہوں نے یہی کیا۔ اس سے لوگوں میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا اعتماد بھی بڑھ گیا کیوں کہ لوگوں پر سے قرض کے ضیاع کا خوف اٹھ گیا کہ اگر قرض ضائع بھی ہو جائے تو وہ مقرض کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دوسرا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی اب ان رقوم کو استعمال کر سکتے تھے۔

نظمِ شرعیہ میں سے یہ وہ نظریہ ہے جس کے ساتھ اسلامی بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ کا الحال ممکن ہے کیوں کہ لوگ اپنے مال کے تحفظ کی غاطر اسلامی بینک میں اپنی رقوم رکھواتے ہیں۔ وہ اگرچہ امانت کی نیت سے آتے ہوں، لیکن اسلامی بینک لوگوں سے یہ رقوم قرض کی بنیاد پر لیتے ہیں۔ قرض پر رقوم لینے کا یہ اقدام عوام کے لیے نہایت مفید ہوتا ہے کیوں کہ اس سے وہ رقوم اسلامی بینک کی ذمے داری بن جاتے ہیں اور اسلامی بینک ان رقوم کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اسلامی بینک وہ رقوم امانت کے طور پر رکھتے تو شاید لوگوں میں اسلامی بینکوں پر وہ اعتماد کبھی نہ ہوتا جو آج ہے، لہذا مندرجہ بالا نظریہ شرعی کی وجہ سے یہاں کرنٹ اکاؤنٹ کے جواز سے متعلق حاجت عامہ متحقق اور مؤثر ہوتی ہے۔ نیز اس بارے میں کوئی مانع بھی موجود نہیں ہے اور اس میں لوگوں کے مالی مصالح کا تحفظ بھی ہے۔

۳۔ تکافل کا جواز: اسلامی مالیاتی اداروں کی جانب سے روایتی انشورنس کے مقابل کے طور پر تکافل کو متعارف کرایا گیا۔ تکافل کا مطلب ایک دوسرے کی باہم کفالت کرنا ہے۔ کلاسیکل فقہی لٹریچر میں یہ اصطلاح نہیں ملتی، تاہم موجودہ تکافل کا تصور نیا نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی تصور کفالت کی بنیاد پر متعارف ہوا ہے۔^(۱۱۵) تکافل

-۱۱۳- الصحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب برکة الغازي في ماله، ۲: ۸، رقم: ۳۱۲۹۔

-۱۱۵- مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ کریں: وہبہ الأزجي، المعاملات المالية المعاصرة (دمشق: دار الفكر، ۲۰۰۲ء، ۲۶۳)۔

کے تحت پہلے کچھ افراد یا مالیاتی ادارے مل کر ایک تکافل کمپنی قائم کرتے ہیں۔ افراد یا ادارے مل کر جو سرمایہ تکافل کمپنی کو ادا کرتے ہیں، اُس کا ایک حصہ وقف پول میں ڈالا جاتا ہے جس پر وقف کے شرعی احکام کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ وقف پول کسی کی ملکیت نہیں ہوتا بلکہ اپنا الگ قانونی وجود رکھتا ہے اور اس پول میں رکھی گئی رقم ان متنازعین کے لیے وقف ہوتی ہے جو تکافل پالیسی حاصل کرتے ہیں۔ تکافل کمپنی کے مالکان وقف پول کی اس رقم کو وقف پول کے ایجنت (دکیل) کی حیثیت سے یا مضاربہ کی بنیاد پر مضارب کی حیثیت سے کاروبار میں لگاتے ہیں۔^(۱۱۹) پھر یہ مالکان وقف پول کے منافع سے بھیثیت دکیل اپنی وکالت فیس یا بھیثیت مضارب اپنا حصہ نفع وصول کرتے ہیں۔ جب کہ باقی نفع دوبارہ وقف پول میں ہی جمع کر دیتے ہیں۔

کچھ فقهاء کے نزدیک تکافل جائز نہیں ہے، کیوں کہ ان کے نزدیک اس میں نقدی کو وقف کیا جاتا ہے جب کہ وقف صرف اُن اشیاء میں کیا جاسکتا ہے جن کی اصل قائم رہے۔ نیز تکافل میں سود اور غردونوں خرابیاں موجود ہیں۔ سود بایں طور کہ اگر پالیسی ہولڈر تکافل کی مدت مکمل ہونے سے قبل فوت ہو جائے تو اس کو پالیسی کے تحت طے شدہ رقم دی جاتی ہے، حالاں کہ اُس رقم کا ایک حصہ اس نے ادا ہی نہیں کیا ہوتا، جب کہ غرداں طرح ممکن ہے کہ جس نقصان کے ازالے کے لیے پالیسی لی گئی ہے وہ پیش نہ آئے اور ادا کی ہوئی رقم رائیگاں جائے اور یہ بھی اختال ہے کہ وہ نقصان پیش آجائے اور کمپنی کے ذمہ ادا ہی لازم ہو جائے۔

تکافل کی صورت کا اگر بنظیر غائر مطالعہ کیا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں سود کا عنصر نہیں ہے، نہ بلا وسطہ ہی بالواسطہ، کیوں کہ ربا وہی صورتوں میں در آتا ہے ایک ربا النسیئہ^(۱۲۰) جو قرض کے معاملے میں پیدا ہوتا ہے اور ایک ربا الفضل^(۱۲۱) جو کہ صرف بیویع کی صورت میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی تیری

- ۱۱۶۔ مفتی سید صابر حسین، سرمایہ کاری کے شرعی احکام، ۲۹۰-۳۰۶۔

- ۱۱۷۔ ربا النسیئہ کا مطلب ہے ایسا سود جو قرض پر وصول کیا جائے۔ اصطلاح میں "قرض کا ایسا معاملہ جس میں یہ شرط عائد کی گئی ہو کہ مقروض ایک خاص مدت میں قرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہی طے شدہ زیادہ مال بھی دے گا، ربا کہلاتا ہے۔" احمد بن علی الجصاص، أحكام القرآن (بیروت: دار الكتب العلمیة)، ۱: ۵۶۹۔

- ۱۱۸۔ ربا الفضل (اضافے کا سود) اسے ربا الیبع (بیع کاربا) بھی کہتے ہیں کیوں کہ یہ صرف بیع کی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ ربا الفضل کی اصطلاحی تعریف دراصل حضور نبی اکرم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے جسے حضرت ابوسعید خدریؓ نے روایت کیا ہے: سونے کی سونے کے ساتھ، چاندی کی چاندی کے ساتھ گندم کی گندم کے ساتھ جو کہ ساتھ کھجور کے ساتھ اور نمک کی نمک کے ساتھ برابر برابر اور ہاتھوں ہاتھ فروخت کرو، اگر یہ اجتناس مختلف ہوں تو پھر جیسے مرخصی ہو یہیں

صورت میں سود کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تکافل پالیسی ہو لدراگر وقت سے پہلے فوت ہو جائے تو جو بھی رقم اُسے ملتی ہے وہ وقف پول سے ملتی ہے جو تبر عادی جاتی ہے اور ایسے معاملے میں دی جاتی ہے جونہ تو قرض ہوتا ہے اور نہ ہی بچ؛ لہذا اس میں ربا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رہی غرر کی بات تو اس کا تعلق وقف پول سے ہے، کیوں کہ اگر واقعہ رونما ہوا تو وقف پول سے امدادی رقم تبر عادی مہیا کی جائے گی اور عقود تبر عادات میں غرر قابل برداشت ہوتا ہے۔^(۱۱۹) جہاں تک نقدی کے وقف کرنے کی بات ہے تو یہ خالص اجتہادی نوعیت کا معاملہ ہے، جس میں مختلف فقہاء نے اجتہاد کے ذریعے اس کی اجازت دی ہے، جیسا کہ امام محمد عثیۃ اللہ^{رحمۃ اللہ علیہ} کا موقف ہے کہ ان چیزوں میں وقف جائز ہے جو لوگوں میں معروف ہو جائیں،^(۱۲۰) جیسے امام بخاری عثیۃ اللہ^{رحمۃ اللہ علیہ} (۲۵۶) نے معروف چیزوں کے وقف کے حوالے سے اپنی صحیح میں بَابُ وَقْفِ الدَّوَابَ وَالْكُرَاعِ وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ^(۱۲۱) (جانوروں، گھوڑوں، سامان، سونے اور چاندی کے وقف کا بیان) کے نام سے ایک باب باندھا ہے، اسی طرح نقدی کا وقف کرنا بھی لوگوں میں معروف ہے۔ اسی طرح علامہ ابن ہمام عثیۃ اللہ^{رحمۃ اللہ علیہ} (۸۲۱) نے امام زفر عثیۃ اللہ^{رحمۃ اللہ علیہ} (۱۵۸) کے شاگرد محمد بن عبد اللہ النصاری^{رحمۃ اللہ علیہ} کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ نقدی میں وقف کو جائز سمجھتے تھے۔^(۱۲۲) لہذا یہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کہ اس پر حرام کا فتوی دیا جائے۔ تکافل کے متعلق فقہاء کی عمومی رائے جواز کی ہے، جن میں شیخ مصطفی زرقا (۱۳۱۹)،^(۱۲۳) وہبہ زحلی عثیۃ اللہ^{رحمۃ اللہ علیہ} (۱۳۳۶)، شیخ صدیق امین الضیر،^(۱۲۴) شیخ محمد علی تحریری،^(۱۲۵) مفتی

مگر معاملہ با تھوں ہاتھ ہو۔ امام مسلم بن حجاج التیفیری، صحیح مسلم، کتاب البیوع، باب الصرف و بيع الذهب بالورق نقدا (بیروت: دار إحياء التراث العربي)، رقم: ۱۵۸۷۔

۱۱۹۔ محمد الامین الضیر الصدیق، الغرر في العقود و آثاره في التطبيقات المعاصرة (المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب)، ۳۳-۳۸؛ [احتفاف، مالکیہ اور شافعی کے تذکیرہ بہبہ کے علاوہ دیگر تمام تبر عادات میں غرر قابل برداشت ہوتا ہے، جب کہ مالکیہ بہبہ میں بھی غرر کا اثر قبول نہیں کرتے۔]

۱۲۰۔ داماد آنندی، مجمع الأئمہ شرح ملتقی الأبحر (بیروت: دار إحياء التراث العربي)، ۱: ۳۸-۳۹۔

۱۲۱۔ الصحيح البخاري، کتاب الوصایا، ۲: ۱۲۔

۱۲۲۔ ابن الہام، فتح القدير، ۲: ۲۱۹۔

۱۲۳۔ شیخ مصطفی الزرقا، نظام التأمين والرأي الشرعي فيه (بیروت: مؤسسة الرسالة، ۱۹۸۳)، ۱۳۹۔

۱۲۴۔ مجلہ مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث عشر، موضوع: التأمين الصحي، ۱۳: ۱۳۷۱۔

۱۲۵۔ نفس مرجع، موضوع: خلاصة في التأمين، ۲: ۳۸۲۔

محمد تقی عثمانی^(۱۲۶) قابل ذکر ہیں۔ ان سب علماء کے نزدیک فی زمانہ تکافل تمام افراد سے لے کر اداروں تک کے لیے حاجت عامہ بن چکا ہے، اسی حاجت کے پیش نظر تکافل کے جواز کا فتوی دیا گیا ہے۔

یہاں حاجت کے موثر ہونے کے لیے ظائز شرعیہ میں سے ایک ایسی نظر موجود ہے جس سے تکافل کا الحال ممکن ہے اور وہ نظر شرعی اسلام کا تصور عاقله ہے جس کے تحت اگر قاتل مقتول کی دیت ادا نہ کر سکے تو اُس کے قبیلے والے مل کر امداد بآہمی کی صورت میں وہ دیت ادا کر دیں۔ اسی امداد بآہمی کے تصور کو مختلف یونینیں بھی اپناتی ہیں، جیسے صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی عَلَیْهِ السَّلَامُ عَلَیْهِ الرَّحْمَةُ عَلَیْهِ الرَّحِیْمُ عاقله کے باب میں لکھتے ہیں: "آج کل خارخانوں اور مختلف اداروں میں ملازموں اور مزدوروں کی یو نین بی ہوئی ہیں جن کے مقاصد میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی ممبر پر کوئی بھی افاد پڑے تو یو نین اُس کی مدد کرتی ہے۔"^(۱۲۷) تکافل بھی امداد بآہمی کی ہی ایک صورت ہے اس لیے یہاں حاجت موثر ہوتی ہے، حالاں کہ ماضی قریب میں جب کہ تکافل ابھی متعارف بھی نہیں ہوا تھا تو اُس وقت کے علماء روایتی انشورنس کو سود اور غر کی خرابیوں کے باوجود ضرورت کے فقہی قاعدے کے تحت جائز قرار دیتے رہے ہیں، جیسے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے مجلس شرعی مبارک پور^(۱۲۸) نے اپنے فیصلے میں چند شرائط کے ساتھ روایتی انشورنس کروانے کی اجازت دی ہے۔^(۱۲۹) چوں کہ ہندوستان میں اسلامی طرز تکافل ابھی تک اس طرح متعارف نہیں جیسے دیگر اسلامی ممالک میں ہے اس لیے وہاں یہ فتوی راجح ہے۔

-۱۲۶۔ مفتی محمد تقی عثمانی، فقهہ البویع (کراچی: مکتبہ معارف القرآن، ۲۰۱۵ء، ۲: ۱۰۹۷)۔

-۱۲۷۔ مفتی امجد علی اعظمی، بہار شریعت (کراچی: مکتبہ المدینہ)، حصہ نمبر ۱۸۔

-۱۲۸۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی عَلَیْهِ السَّلَامُ کے پوتے مفتی اختر رضا خان قادری الاذہری نے ۱۹۸۵ء میں "کل ہند شرعی بورڈ" کے نام سے تیس جید مفتیان عظام پر مشتمل ایک بورڈ تشكیل دیا، جو بعد میں ۱۹۹۲ء کو مجلس شرعی مبارک پور میں تبدیل ہو گیا۔ اس کا قیام دارالعلوم اشرفیہ، مصباح العلوم، مبارک پور، انڈیا میں ہوا۔ اس کے اغراض و مقاصد میں حنفیت کے اصولوں کی روشنی میں جدید شرعی مسائل پر اجتہادی فیصلے صادر کرنا ہے۔ اس وقت اس بورڈ کی سربراہی مفتی نظام الدین رضوی کر رہے ہیں۔ مجلس شرعی کے فیصلے "صحیفہ مجلس شرعی" کے نام سے شائع ہوتے ہیں۔ البتہ پہلا صحیفہ صحیفہ فقہہ اسلامی کے نام سے شائع ہوا تھا۔

-۱۲۹۔ صحیفہ فقہہ اسلامی (کراچی: برکاتی پیش)، ۳۲ [یہاں سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے:
http://bookslibrary.net/details.php?book_id=568&book=sahifa-fiqh-e-islami-jild-1]

۵. ڈاکو منظری کریڈٹ کا جواز: ڈاکو منظری کریڈٹ ایک دستاویز ہوتی ہے جو مشتری کے بینک کی طرف سے بالع کو اس بات کا میبن دلانے کے لیے بھیجی جاتی ہے کہ وہ مشتری کو اپنا مال بھیج دے۔ جیسے ہی مشتری جائز پر تال کے بعد اس مال پر قبضہ کرے گا، تو اس کا بینک بالع کو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ اس دستاویز پر مال کی قیمت، کرنی کا نام، رقم ملنے کی تاریخ سب کچھ درج ہوتا ہے۔ بعض فقهاء کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، کیوں کہ ان کے نزدیک اس بیع میں "تأجیل البدلين" (میمع اور شمن دونوں کا موخر ہونا) لازم آتا ہے، جو ناجائز ہے۔^(۱۳۰) جواز کے قائل فقهاء کہتے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت میں ڈاکو منظری کریڈٹ ایک لازمی جزو بن چکا ہے، کیوں کہ ایسا نہ کرنے سے بالع کو قیمت نہ ملنے کا خطرہ رہتا ہے، جب کہ مال ملنے سے قبل خریدار رقم دینے کو تیار نہیں ہوتا کیوں کہ اُسے خطرہ رہتا ہے کہ شاید بالع رقم ملنے کے بعد اسے مال نہ بھیجے یا گھٹھیا قسم کا مال بھیج دے، اس لیے ڈاکو منظری کریڈٹ بین الاقوامی تجارت میں حاجت عامہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اگر اس کی اجازت نہیں دی جائے گی تو بین الاقوامی تجارت بہت زیادہ تنگی اور حرج میں مبتلا ہو جائے گی۔ جواز کے قائل فقهاء کے نزدیک اول تو یہ تأجیل البدلين کے قبل سے نہیں ہے، بلکہ یہ مواعده کی صورت ہے جس میں فریقین بیع پر اتفاق کرتے ہیں لیکن عقد بیع نہیں کرتے۔ نیز اگر یہ معاملہ تأجیل البدلين کے قبل سے ہو تو بھی یہ حاجت عامہ کی بنیاد پر جائز قرار پاتا ہے، کیوں کہ تأجیل البدلين کا معاملہ حرام بالغیر ہے، جس میں حاجت موثر ہو سکتی ہے۔ اسی بنیاد پر مجمع الفقهاء الاسلامی جدہ اور ایوفی (AAOIFI) بھرین کی قراردادوں میں ڈاکو منظری کریڈٹ / لیٹر آف کریڈٹ (الاعتماد المستندی) کے ذریعے کاروبار کو حاجت کی بنیاد پر شرعاً جائز قرار دیا گیا ہے۔^(۱۳۱) یہاں حاجت کے موثر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگرچہ اس بارے میں نہ تو کوئی معاون نص موجود ہے اور نہ ہی بالع نص اور نہ ہی مکملہ الحاق کے لیے نظائر شرعیہ میں سے کوئی نظیر موجود ہے، لیکن کاروباری دنیا میں اس پر تعامل موجود ہے اور فی زمانہ معيشت میں یہ ایک عرف بن چکا ہے، نیزاں میں لوگوں کے مالی مصالح موجود ہیں، اس لیے ڈاکو منظری کریڈٹ کے جواز پر حاجت کا متعلق اور موثر ہونا ایک واضح امر ہے۔

- ۱۳۰ - نفس مرجع، ۲۰۲-۲۰۷:۔

- ۱۳۱ - المعايير الشرعية، معيار نمبر: ۱۲؛ الاعتماد المستندية، مستند الأحكام الشرعية، العقد السابق على فتح

الاعتماد، ۲۰۷-۲۰۸:۔

۶۔ سفتحہ کا جواز: سفتحہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی کو قرض دے اور جس شہر میں جانا ہے وہاں قرض وصول کر لے تاکہ راستے کے خطرات سے محفوظ رہ سکے۔^(۱۳۲) ماضی میں اس کے لیے کبھی یہ صورت بھی اختیار کی جاتی تھی کہ ایک آدمی ایک شہر میں کسی سے ایسی رقم لے لیتا اور دوسرے شہر میں جہاں اس کا کاروباری رفیق موجود ہوتا وہاں وہ رقم صاحبِ مال کو ادا کر دیتا، جسے احتاف مکروہ تحریکی، شوافع و مالکی فقہاناجائز اور حنابلہ بغیر عوض کی شرط پر جائز قرار دیتے ہیں،^(۱۳۳) کیوں کہ راستے میں اگر مال ضائع یا چوری ہو گیا تو قرض کے طور پر رقم لینے والا اُس کا ضامن ہو گا اور اُس کا ضامن ہونا ہی قرض دینے والے کے لیے ایسا نفع ہے جو کسی عوض کے بغیر ہونے کی وجہ سے سود کے زمرے میں آتا ہے، جیسے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۲۰ھ) لکھتے ہیں: (فتحہ میں) ہر مقرض قرض دینے سے سقوط خطر طریق کا استفادہ کرتا ہے اور وہ فضل خالی عن العوض ہے کہ بربنائے قرض اس نے حاصل کیا وکل قرض جر منفعة فهو ربا (جو قرض نفع مند ہو وہ ربا ہے۔ اگر وہ [مقرض] مال قرض کے طور پر نہ دیتا، تو وہ اُس [مقرض] کے پاس بطور امانت رہتا اور مال کے ہلاک ہونے کی صورت میں وہ [مقرض] ضامن نہ ہوتا۔ فہذا [مقرض] قرض دیتا ہے اور اس سے یہ نفع [ضمان] حاصل کرتا ہے۔^(۱۳۴) صاحب ہدایہ علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: "ویکرہ السفاتج وہی قرض استفادہ به المقرض سقوط خطر الطریق وهذا نوع نفع استفید به وقد نهى رسول الله صلی الله علیہ وسلم عن قرض جر نفع."^(۱۳۵) (فتحہ مکروہ [تحریکی]) ہیں اور یہ ایسا قرض ہے کہ جس میں قرض دینے والا راستے کے خطرات سے بچنے کی صورت میں مستفید ہوتا ہے اور یہ ایسا نفع ہے جس سے استفادہ کیا جاتا ہے، جب کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ایسے قرض سے منع فرمایا جو نفع

- ۱۳۲ - ابن عابدین، رد المحتار علی الدر المختار، ۵: ۱۶۲ [إِنَّهُ يَدْفَعُ إِلَى تَاجِرٍ مَبْلَغاً قَرْضًا لِيَدْفَعَهُ إِلَى صَدِيقِهِ فِي

بَلَدٍ آخَرَ لِيَسْتَفِيدَ بِهِ سُقُوطَ خَطَرِ الْطَرِيقِ]

- ۱۳۳ - الزحلی، الفقه الاسلامی وأدلة، ۵: ۳۵۰۔

- ۱۳۴ - احمد رضا بریلوی، فتاویٰ رضویہ، ۱۹: ۵۷۵۔

- ۱۳۵ - برهان الدین المرغینانی، الهدایۃ فی شرح بدایۃ المبتدی (بیروت: دار احیاء التراث العربي)، ۳: ۱۰۰۔

لاتا ہو)۔ مولانا اشرف علی تھانوی عَلَیْهِ الْحَمْدُ وَالْكَبَرُ (۱۹۲۳ء) کہتے ہیں: اگر درست پر یہ ثابت ہو کہ انہے اربعہ میں سے کوئی امام سفتحجہ کے جواز کی طرف گیا ہے تو پھر یہ بر بنائے ضرورت ہو گا۔^(۱۳۷) مالکیہ میں محمد بن عبد اللہ الخرثی المالکی عَلَیْهِ الْحَمْدُ وَالْكَبَرُ (۱۹۰۱ھ) بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر مال کی ہلاکت کا خطرہ ہو تو پھر ضرورت شرعیہ کے پیش نظر اس کی اجازت ہے۔^(۱۳۸)

فقہا کے ان دلائل کی روشنی میں سفتحجہ کا حرام لغیرہ ہونا مستفاد ہوتا ہے، کیوں کہ سفتحجہ در حقیقت ایک قرض کا عقد ہی ہے جس میں ایک خارجی امر (سقوط خط طریق سے تحفظ کا استفادہ) کی بدولت کراہت تحریکی آرہی ہے۔ حرام لغیرہ میں رخصت کا حصول تو حاجت کی بنابر بھی ہو سکتا ہے پھر فقہا نے ضرورت شرعیہ کی شرط کیوں لگائی؟ اس کا مکملہ جواب یہ ہو سکتا ہے: شاید ضرورت کا لفظ بول کر فقہا کی مراد ایسی حاجت ہے جو ضرورت کے قائم مقام ہوتی ہے کیوں کہ بعض اوقات فقہا ان دونوں لفظوں کو متراوٹ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ حاجت بمنزلہ ضرورت چوں کہ ضرورت کی طرح عارضی اور محدود نوعیت کی رخصت کا سبب بنتی ہے اس لیے فقہا نے سفاتح کی اجازت کے لیے ضرورت کا لفظ استعمال کیا۔ کلاسیکل فقہ میں سفاتح کے دوسرے رُخ کی طرف توجہ نہیں دی گئی اور وہ یہ ہے کہ بسا اوقات لوگوں کو راستے کے خطرات سے غرض نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے گھروالوں یا دوستوں کی فوری ضرورت کے پیش نظر سفتحجہ کے ذریعے رقم بھجواتے ہیں۔ کیا اس صورت میں بھی سفتحجہ کے عدم جواز کا فنوی دیا جائے گا؟ فتحیہ قواعد و ضوابط کی روشنی میں یہاں بھی حاجت بمنزلہ ضرورت کا تحقیق ہوتا ہے جس کی وجہ سے محدود طور پر سفتحجہ کی رخصت دی جاسکتی ہے، تاہم یہ رخصت داعی نوعیت کی نہیں ہو گی، بلکہ بقدر ضرورت محدود ہو گی۔

۱۳۶ - مولانا اشرف علی تھانوی عَلَیْهِ الْحَمْدُ وَالْكَبَرُ (۱۹۲۳ء) میں ضلع مظفر نگر ہندوستان کے قصبه "تھانہ بھون" میں پیدا ہوئے۔ اسی نسبت سے آپ کو تھانوی کہا جاتا ہے۔ دہلی میں قران مجید حفظ کیا۔ سال کی عمر میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد چودہ سال تک کان پور میں مدرسہ فیض عام میں درس و تدریس میں مشغول رہے اور اپنے مواعظ حسنہ اور تصانیف مفیدہ سے وہاں کے مسلمانوں کو مستفید فرماتے رہے، علاوہ بریں اپنا کام بھی اپنے ذمے لے رکھا تھا، چودہ سال کے بعد اپنے پیرو مرشد کے حکم سے دوبارہ اپنے وطن تھانہ بھون میں قیام پذیر ہو گئے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد تقریباً ایک ہزار سے متباہز ہے۔ ۱۹۲۳ء میں آپ رحلت فرمائے۔ (قاری فیوض الرحمن، مشاہیر علماء دیوبند (لاہور: المکتبہ العربیہ)، ۱۹۷۶ء، ۱: ۲۲)

۱۳۷ - مولانا اشرف علی تھانوی، امداد الفتاوی (کراچی: مکتبہ دارالعلوم)، ۳: ۱۲۵۔

۱۳۸ - الخرثی، شرح مختصر خلیل، ۵: ۲۳۲۔

سفرتج کا معاملہ اگر دیکھا جائے تو یہ از خود ایک جائز معاملہ ہونا چاہیے اور اس کے جواز کے لیے ضرورت کے فقیہی قواعد کی احتیاج پیش نہیں آنی چاہیے۔ احتجاف، شوافع اور مالکیہ کے نزدیک سفرتج میں چوں کہ "راستے کے خطرات سے بچاؤ" قرض پر ایک مشروط نفع ہے اس لیے یہ ناجائز ہے۔ اگر اسے ایک نفع تسلیم کر بھی لیا جائے تو بھی یہ اس نفع سے دو بنیادوں پر مختلف ہے جو سود بنتا ہے: اول وہ نفع مادی نوعیت کا ہوتا ہے یعنی رقم، اشیا یا پھر کسی چیز کے حقوق وغیرہ، لیکن سفرتج میں یہ ایک اخلاقی نوعیت کا استفادہ ہے جس سے تقوے کی بنیاد پر اجتناب تو کیا جاسکتا ہے لیکن اس پر حرام کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، جیسا کہ امام القشیری رحمۃ اللہ علیہ (۲۶۵) لکھتے ہیں: "امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ اس قدر اعلیٰ درجے پر تھا کہ انھیں نے سود کے شانے کی بدولت اپنے مقروض کی دیوار کے سامنے میں رکنے کو بھی پسند نہ فرمایا۔"^(۱۳۹) لیکن سب جانتے ہیں کہ اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ دوم: اس سودی نفع میں مقروض کا اصالہ استھصال ہو رہا ہوتا ہے جب کہ سفرتج میں مقروض کا استھصال نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ قرض خواہ کے ساتھ وہ بھی من وجہ اخلاقی طور پر استفادہ کر رہا ہوتا ہے، جیسے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ (۵۱) کہ: "وَالصَّحِیْحُ أَنَّهَا لَا تُكْرَهُ، إِلَّا أَنَّ الْمُنْفَعَةَ لَا تَنْخُصُ الْمُقْرِضَ، بَلْ يَتَنَفَّعَانِ هُنَّا جَمِيعًا"^(۱۴۰) (صحیح یہ ہے کہ سفرتج مکروہ نہیں ہے، کیوں کہ اس میں منفعت قرض دینے والے کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ دونوں فریق ہی اس سے منفعت پاتے ہیں)۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ (۲۸۳) کہتے ہیں: "حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور عبد اللہ بن زییر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ مکہ میں تاجر و مسافر سے نقد قرض لے لیا کرتے تھے اور کوفہ اور بصرہ میں ادا بیگلی کا تحریری وثیقہ لکھ دیتے تھے۔"^(۱۴۱) علام ابن قدامة حنبل^(۱۴۲) بھی لکھتے ہیں: "حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سفرتج کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔"^(۱۴۳) علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (۲۷۸) اس کو مطلق جائز اور درست قرار دیتے ہیں۔^(۱۴۴) اس طرح یہ معاملہ شرعی قواعد اور نصوص کے خلاف ہی نہیں بتا کہ اس کے جواز کے لیے حاجت کے قاعدے کی طرف رجوع کیا جائے۔ نیز جس استفادے کی بات کی جا رہی ہے وہ مقروض کی

-۱۳۹۔ القشیری، عبد الکریم بن ہوازن، الرسالۃ القشیریۃ (قاهرہ: دار المعرف)، باب التقوی، ۱: ۲۳۰۔

-۱۴۰۔ ابن القیم، إعلام الموقعين، ۱: ۲۹۵۔

-۱۴۱۔ السرخسی، المبسوط، ۱۲: ۷۳۔

-۱۴۲۔ ابن قدامة، المغني (مکتبۃ القاهرة، ۱۹۶۸ء)، ۲: ۲۳۰۔

-۱۴۳۔ ابن تیمیہ، مجموع الفتاوی، ۲۹: ۵۳۳۔

جانب سے قرض کی رقم پر ضامن بننا ہے۔ حالانکہ کلاسیکل فقہ میں ضمانت اور قرض کے عقود کو جمع کرنا جائز ہے۔ یعنی قرض دینے والا مقروض سے ضمانت لے سکتا ہے اور اگر مقروض قرض کی رقم واپس نہ کرے تو وہ ضامن بھی ہوتا ہے تو پھر سفتحجہ میں قرض کے ضمایع کی صورت میں مقروض کا ضامن بن جاتا رہا کیسے ظہرتا ہے؟ تاہم یہ صرف ایک رائے ہے جس پر سوچا جاسکتا ہے۔

۷۔ مالی دستاویزات کا جواز: بل آف ایکچچ، چک، ڈرافٹ وغیرہ، ایسی مالی دستاویزات ہیں جن کے ذریعے کافی بڑی رقم کو ایک جگہ سے دوسرا جگہ آسانی سے منتقل کیا جاتا ہے۔ بعض فقہاء مالی دستاویزات کے لیں دین پر حوالہ اور السفتحجہ کی صورتوں کا اطلاق کرتے ہیں۔ اسی بنا پر المعايير الشرعية میں مالی دستاویزات کو حوالہ اور سفتحجہ قرار دیا گیا ہے۔ ان دستاویزات کا تعامل اس حد تک زیادہ ہو چکا ہے کہ اس سے گریز کرنا معاملات میں بہت تنگی اور حرج کا باعث بتا ہے۔ اس لیے حاجتِ شرعیہ کے پیش نظر حوالہ یا سفتحجہ کی شرائط^{۱۳۳} پر ان کے جواز کی رخصت دی گئی ہے۔ (۱۳۴) اگر بنظر غائرہ دیکھا جائے تو مذکورہ بالا جدید مالی دستاویزات سفتحجہ سے مشابہت نہیں رکھتیں کیوں کہ سفتحجہ میں قرض یادین کی صورت پہلے سے کسی لیں دین کی بدولت پیدا ہو چکی ہوتی ہے؛ لہذا یہ دستاویزات کسی طور پر بھی سفتحجہ قرار نہیں دی جاسکتیں؛ تاہم یہ جدید مالیاتی دستاویزات بر بنائے حاجت اس لیے جائز قرار دی جاسکتی ہیں کہ نظائرِ شرعیہ میں ایک نظیر ایسی ہے جس کے ساتھ ان کا الحال ممکن ہے وہ نظیر شرعی حوالہ کا عقد ہے، کیوں کہ جدید مالیاتی دستاویزات ایسی دستاویزات ہیں جو کسی عقد کے نتیجے میں پیدا شدہ دین کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ان دستاویزات کو برابر عوض کے بد لے کسی اور کے ہاتھ دینے کا وہی مطلب ہے جو حوالہ کی صورت میں بتا ہے کہ جس میں محل اپناؤین محال علیہ کے حوالے کرتا ہے، چون کہ حوالہ کی نظیر پہلے سے موجود تھی جس کے ساتھ جدید مالیاتی دستاویزات کا الحال ممکن تھا اس لیے جدید مالیاتی دستاویزات کو حاجت کی بنا پر جائز قرار دیا گیا۔

۸۔ منی آرڈر کا جواز: منی آرڈر سے متعلق اکثر علماء کی یہ رائے رہی کہ نہ تو یہ قرض ہے اور نہ ہی اجرہ۔ اگر اسے قرض کی صورت قرار دیا جائے تو یہ ناجائز ہے کیونکہ یہ سفتحجہ کی مانند ہو جاتا ہے جس میں قرض دینے والا راستے کے خطرات

-۱۳۳۔ حوالہ کی بنیادی شرائط میں سے یہ کہ ان دستاویزات کو ان کی ظاہری قیمت کے برابری فروخت کیا جائے۔ ورنہ یہ سود ہو گا۔
مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ کریں: المعايير الشرعية، معيار نمبر: ۱۶، الأوراق التجارية۔

-۱۳۴۔ المعايير الشرعية، معيار نمبر: ۱۶، الأوراق التجارية، مستند الأحكام الشرعية، ۲۳۰۔

سے حفاظت کا فائدہ حاصل کرتا ہے جو قرض پر زیادتی کی بدولت سود بن جاتا ہے۔ اگر اسے اجارہ کی صورت قرار دیا جائے تو یہ صورت اس لیے ناجائز ہے کہ اس میں ڈاک خانہ امین ہے اور امین کا فرض ہے کہ وہ یعنیہ وہی چیز ادا کرے۔ جبکہ ڈاک خانہ وہی روپیہ نہیں پہنچاتا۔ نیز امین سے نقصان ہو جائے تو وہ ضامن نہیں بتا حالانکہ ڈاک خانہ ضامن بتتا ہے۔ لہذا ڈاک خانہ قرض دار ہے نہ اجیر جب تک منی آرڈر کی کے عقد کی کوئی فقہی صورت نہ ہو، منی آرڈر کرنا جائز نہیں۔^(۱۲۶)

مولانا احمد رضا خان بریلوی نے المنی و الدرر کے نام سے فقہی دلائل پر مبنی ایک مفصل رسالہ تحریر کیا، جس میں انہوں نے مندرجہ بالاموقوف پر فقہی اعتراضات وارد کیے اور مفصل بحث کی جس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

اُن کی رائے کے مطابق منی آرڈر کا مسئلہ نہ تو قرض محض یا اجارہ محض ہے اور نہ ہی سفتھ کی مانند ہے بلکہ یہ قرض اور اجارہ کا مرکب عقد ہے جس میں ڈاک خانہ اپنی خدمات کا صلمہ لیتا ہے۔ امین کے ضامن بننے پر انہوں نے امام اعظم ابوحنیفہ اور صاحبین کے فقہی اختلاف کا ذکر کیا جس میں امام اعظمؑ کی رائے یہ ہے کہ ضمان نہیں ہو گا جبکہ صاحبین کہتے ہیں کہ ضمان لازم ہو گا جس پر علامہ شامی کہتے ہیں کہ صاحبین احسانا یہ قول کرتے ہیں ورنہ قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ ضمان نہ ہو۔ اور تبیین الحقائق میں ہے: بقولہما یفتی الیوم لتغیر احوال الناس وبه یحصل صيانة اموالهم (آج کل صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا جائے کیونکہ لوگوں کے احوال میں تبدیلی ہو گئی ہے جبکہ اس فتویٰ سے لوگوں کے مال محفوظ ہوں گے)۔ اسی کو نبیاد بنتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے صاحبین کا قول لیا۔ بحر الرائق، فتاویٰ قاضی خان، جامع الفتاویٰ، النوازل، الشابہ والنظائر میں اسی قول کو لیا گیا ہے۔ مزید بحث کرتے ہوئے خود ہی ایک اعتراض اٹھاتے ہیں کہ منی آرڈر میں اجارہ ایسی شرط پر ہوتا ہے جس میں احد العاقدین کا نقش ہے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں کہ یہ شرط اس وقت مفسد عقد ہوتی ہے جبکہ اس پر تعارف و تعامل نہ ہو، حالانکہ منی آرڈر کا نہ صرف تمام ملاد و امصار و اقطار ہندیہ بلکہ دیگر ممالک اسلامیہ میں بھی دائرہ و سارے ہونا تو محتاج بیان نہیں۔ اپنے موقف کی تائید میں وہ بڑا یہ کیا یہ عبارت نقل کرتے ہیں: وَكُلْ شَرْطٍ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأَحَدِ الْمُعَاقدَيْنِ أَوْ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْتِحْقَاقِ بُفْسِدُهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَارِفًا؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ قَاضٍ عَلَى الْقِيَاسِ (ایسی شرط جس میں فرقین میں سے کسی ایک یا بیچ اگر فائدہ کا اہل ہے تو اس کا فائدہ شرط کیا جائے تو وہ بیچ کو فاسد کر دے گی۔۔۔ بشرطکہ عرف میں وہ شرط معروف نہ ہو کیونکہ قیاس پر عرف غالب ہوتا ہے)۔ اس کے بعد بہت سارے فقہی دلائل سے ثابت کیا کہ یہ عرف اور تعامل بہت قوی ہے۔^(۱۲۷)

-۱۲۶۔ اس بارے میں مولانا شید احمد گنگوہی اور مولانا شرف علی تھانوی کے فتاویٰ جات ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں۔

-۱۲۷۔ یہ رسالہ فتاویٰ رضویہ کی جلد نمبر ۱۹ میں موجود ہے، ۱۹: ۵۶۳۔

اس تناظر میں دیکھا جائے تو فی زمانہ منی آرڈر، ویسٹرن یونین وغیرہ کے ذریعے رقوم بھجوانا ایک حاجت عامہ بن چکا ہے جس کے جواز یا عدم جواز پر کوئی واضح نص تو موجود نہیں لیکن ان پر تعامل ضرور موجود ہے جس کی بنابر کہا جاسکتا ہے کہ یہاں حاجت مؤثر ہو سکتی ہے اور ان معاملات کو جائز قرار دیا جاسکتا ہے۔

ضرورت اور حاجت کے قواعد کا بے جا استعمال

"حکومتِ پاکستان کے اجارہ صکوک" کی بذریعہ بیع مؤجل فروخت

گزشہ کئی سال سے پاکستانی حکومت اجارہ صکوک جاری کر رہی ہے۔ جنہیں جی۔ او۔ پی اجارہ صکوک کہا جاتا ہے۔ یہ بالعموم تین سال کی مدت کے لیے جاری کیے جاتے ہیں۔ اس کے تحت حکومت پاکستان اپنا کوئی اثاثہ جیسے جنح ٹریل کراچی SPV کے ذریعہ فروخت کرتی ہے اور ساتھ ہی اُسے اپنے استعمال کے لیے اجارہ (Lease) پر لینے اور مدت اجارہ ختم ہونے کے بعد واپس خریدنے کا عہد بھی کرتی ہے۔ SPV صکوک جاری کر کے بینکوں سے رقم لیتی ہے اور حکومت کو ادا گئی کرتی ہے۔ پھر وہی اثاثہ حکومت پاکستان کو اجارہ پر واپس کر دیا جاتا ہے۔ جس کے نتیجے میں اسلامی بینکوں کو ایک خاص مالیت کے صکوک مل جاتے ہیں۔ حکومت پاکستان اسلامی بینکوں کو تین سال تک T-Bills یعنی خزانے کی ہنڈیوں سے منسلک کرایہ ادا کرتی رہتی ہے۔ اگر اسلامی بینکوں کو رقم کی ضرورت پڑے تو اجارہ صکوک کو سکینڈری مارکیٹ میں فروخت کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ایسا بہت ہی نادر ہوتا ہے۔ اسلامی بینک عام طور پر یہی چاہتے ہیں کہ ان کا پیسہ لگا رہے اور وہ منافع کماتے رہیں۔ گزشہ چند برسوں میں حکومت نے نئے اجارہ صکوک جاری کیے نہیں کیے۔ چنانچہ جیسے ہی پہلے سے جاری کردہ صکوک کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو اسلامی بینکوں کے ذمہ دار افراد کو پریشانی لاحق ہوئی کہ جب مدت ختم ہو جائے گی اور اصل رقم واپس ملے گی تو اسے کہاں لگایا جائے گا؟

اس حوالے سے میزان بینک نے اپنے شریعہ کے شعبے کے علماء سے مدد چاہی جنہوں نے ضرورت کا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے ایک حلیہ پیش کیا اور جسے بعد میں اسٹیٹ بینک کے شریعہ بورڈ سے منظور بھی کروالیا گیا۔ نامور اسلامک بینکنگ اسکالر محمد ایوب صاحب نے علمی مجلس (JIBM) میں عمومی بحث کے لیے تیار کیے گئے نوٹ میں اس موضوع کا تفصیل سے تقدیمی جائزہ لیا ہے۔ ذیل میں اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے:

مرکزی بینک پاکستان کے شریعہ بورڈ نے اسلامی بینکوں کے مندرجہ بالامثلے کا یہ حل منظور کیا کہ اسلامی بینک تین سال کی مدت مکمل ہونے سے قبل اپنے اجارہ صکوک کو ان کی اُس وقت کی مالیت کے ساتھ ایک سالہ T-Bills کاریٹ شامل کرتے ہوئے اسٹیٹ بینک کو بیع مؤجل کے تحت مزید ایک سال کی مدت کے لیے فروخت کر دیں۔ اس طرح ان کی

رقوم مزید ایک سال کے لیے نفع کما سکیں گی۔ یہ حل کئی وجوہات کی بنا پر ناجائز ہے۔ اسلامی بینک کس طرح ایسے صکوک کو اگلے ایک سال کی مدت پر فروخت کر سکتے ہیں جونہ صرف چند دن بعد اپنی مدت پوری کر رہے ہیں بلکہ متعلقہ اٹانہ بھی حکومت کو واپس فروخت کر دیا جائے گا۔ مدت مکمل ہونے کے بعد ان صکوک کی حیثیت واجب الوصول دین کی وجائے گی مگر اسلامی بینک اُس واجب الوصول دین پر مزید ایک سال کے لیے منافع کماتے رہیں گے۔ واجب الوصول دین کو برابری کی بنیاد پر صرف عقد حوالہ کے ذریعے ہی فروخت کیا جاسکتا ہے۔ لیکن مندرجہ بالا معاملے میں واجب الوصول دین کے ساتھ ایک سال کے لیے Bills کا اضافی ریٹ شاٹل کیا جاتا ہے جو واضح طور پر رہا ہے۔ نیز جب اسلامی بینک چند دن بعد ان صکوک کے مالک ہی نہیں رہیں گے تو پھر کسی صورت میں مزید ایک سال کے کرانے پر ان کا استحقاق نہیں ہوتا۔ جب اسلامی بینک چالیس سال کا سفر طے کر چکی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی بینک تجارت اور کاروبار کے صحیح طریقے اپنائیں نہ کہ روپے سے روپے کمانے کے حیلے تلاش کریں۔ اس طرح کی پروڈکٹ اسلامی بینکاری کے لیے نہایت مضر ہے۔ نیز اس پروڈکٹ کی اجازت دیتے ہوئے مرکزی بینک پاکستان نے کوئی شرعی دلیل بھی نہیں دی اور صرف بعض موہول کا لفظ استعمال کر کے اجازت دے دی گئی اور اس حیلے کے دیگر شرعی پہلوؤں کو بوجہ پس پشت ڈالا گیا۔^(۱۴۸)

محمد ایوب صاحب کے درج بالا نوٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے اسلامی ترقیاتی بینک جدہ کے تحقیقی ادارے RTI کے سینئر معیشت دان جناب سلمان سید علی نے ایک اور پہلوی طرف توجہ دلائی ہے:

جب بینک کو معلوم ہے کہ صکوک چند دنوں کے بعد اپنی اختتامی مدت کو پہنچ رہے ہیں اور متعلقہ رقوم کی حیثیت قابل وصول رقوم تو ایسی رقوم کا تبادلہ / لین دین بعض صرف کے اصولوں کے تحت ہی کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ ان رقوم کی بعض موہول دیسے ہی نہیں ہو سکتی۔^(۱۴۹)

اس جملہ صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اس جناب سلمان سید علی مزید یہ فرماتے ہیں:

اسلامی بینکوں کو سرمایہ کاری کی سہولت پہنچانے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ظاہر چھوٹا سا عمل اسلامی بینکاری میں سود کا بڑا دروازہ (Flood Gate) کھول دے گا۔ اس کو جواز بنا کر مالیاتی ادارے چند ماہ کے صکوک جاری کریں گے اور اختتامی مدت سے چند روز قبل اگلے دس سال کے لیے فروخت کر کے روپے پر روپیہ کماتے رہیں گے۔^(۱۵۰)

148- Ayub, Muhammad (2015), JIBM Discussion Forum: Bai' al-Mu'ajjal of GoP Ijārah Sukuk Liquidity Management Product of the State Bank of Pakistan Introduced vide SBP, DMMD Circular No. 17 Oct. 15, 2014, Journal of Islamic Business and Management (JIBM), 5(2), p: 182-194.

149- Ibid.

150- Ibid.

دونوں حضرات کی درج بالا تقدیم میں وزن ہے۔ ضرورت و حاجت کے قواعد کی روشنی میں دیکھا جائے تو بھی یہ واضح طور پر ایک ربی عالمہ ہے جو حرام لذاتے ہے۔ نیز جس امر کو اسلامی بینوں کی "ضرورت" فرض کیا جا رہا ہے وہ در حقیقت ضرورت تو در کنار حاجتِ شرعی کے زمرے میں بھی نہیں آتی۔ اس لیے ایک فرضی امر، جو نہ ضرورت ہے اور نہ ہی حاجت، کی بنابر حرام لذاتے معاملے میں رخصت نہیں دی جاسکتی۔ نیز ضرورت و حاجت کے قواعد صرف اُسی وقت حرکت میں آتے ہیں جبکہ کسی امر کا تبادل موجود ہی نہ ہو جبکہ اس مسئلہ میں کئی جائز تبادل عالم کی جانب سے پیش کیے جا چکے ہیں۔ اس لیے اسیٹ بینک آف پاکستان کے شریعہ بورڈ کے علماء کو صورتحال کا از سر نوع جائزہ لینا چاہیے۔

وعداں کی بنیاد پر کرنیوں کا فارورڈ معاهدہ

موجودہ مالیاتی نظام کے کرنیوں کے فارورڈ معاهدے سود اور غرر کی وجہ سے ناجائز قرار دیے جاتے ہیں۔ ایسی مارکیٹ جہاں مستقبل کی طے شدہ تاریخوں کے لیے مختلف کرنیوں یا اشیاء کی خرید و فروخت کی جاتی ہو فارورڈ مارکیٹ کہلاتی ہے اور اس میں کیے گئے کرنی کے معاهدے "کرنی کے فارورڈ معاهدے" (Foreign Exchange Contracts) کہلاتے ہیں۔ اس معاهدے میں فریقین کی طرف سے کرنیوں کی باہم حوالگی مستقبل کی کسی طے شدہ تاریخ تک مؤخر کی جاتی ہے، لیکن اس معاهدے میں کرنیوں کی قیمتیں پہلے سے ہی طے کر لی جاتی ہیں۔ ان معاهدات کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں کرنی کی قیمتوں کے گرنے کی صورت میں نقصان سے بچا جائے۔ تاہم ان معاهدات میں کرنیوں کا حقیقی لین دین مقصود نہیں ہوتا۔^(۱۵) فقہا نے فارورڈ مارکیٹ میں کرنیوں کے تبادلے سے متعلق چند شرائط مقرر کی ہیں تاکہ معاملات شریعت کے اصولوں

۱۵۔ مثال: زید پاکستان میں ہے اور امریکہ میں عمرو سے پانچ ہزار امریکی ڈالر کی اشیا خریدتا ہے۔ دونوں میں معاهدہ طے پاتا ہے کہ زید تین ماہ بعد رقم ادا کر کے وہ اشیا خرید لے گا۔ زید کو یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ تین ماہ بعد ڈالر مہنگا نہ ہو جائے اس لیے وہ کسی بھی بینک سے آج ہی مارکیٹ کے موجودہ ریٹ سے کچھ زیادہ (فرض کریں ۱۰۰ اروپے کا ایک ڈالر) پر ایک مستقبلی معاهدہ کرتا ہے، جس کے تحت بینک تین ماہ بعد زید کو پانچ ہزار امریکی ڈالر فراہم کرے گا جن کی پاکستانی روپوں میں قیمت پانچ لاکھ روپے بنتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، کیون کہ تین ماہ بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈالر کا ریٹ کیا ہے؟ اگر تو ڈالر کا ریٹ زیادہ ہو امثلاً ۲۰۰ اروپے کا ایک ڈالر، تو اس حساب سے پانچ ہزار ڈالر کی قیمت پاکستانی روپوں میں پانچ لاکھ دس ہزار بنتی ہے۔ بینک زید کو یہ ساری رقم ادا نہیں کرے گا بلکہ ریٹ میں جو اضافہ ہوا ہے وہ ادا کرے گا لیعنی دس ہزار روپے۔ اسی طرح اگر ریٹ کم ہو گیا جیسے ۹۸ روپے کا ایک ڈالر، تو اس حساب سے پانچ ہزار ڈالر کی قیمت پاکستانی روپوں میں چار لاکھ نوے ہزار بنتی ہے۔ اس صورت میں زید بھی بینک کو پانچ ہزار امریکی ڈالر کی قیمت میں ہونے والی کی ادا کرے گا جو کہ دس ہزار روپے

فارورڈ مارکیٹ میں کرنیوں کے تبادلے سے متعلق چند شرائط مقرر کی ہیں تاکہ معاملات شریعت کے اصولوں پر رہیں، جیسے کرنیوں کے تبادلے میں کرنیوں کی باقاعدہ حقیقی حوالگی کی شرط، اگر یہ شرط پوری نہ ہو تو پھر کرنی کا فارورڈ معاملہ تو نہیں ہو سکتا البتہ یہ طرفہ وعدہ کیا جاسکتا ہے جس کے تحت وعدہ کرنے والا مستقبل کی طے شدہ تاریخ کو دوسرے فریق کے ساتھ طے شدہ قیمت پر ایک کرنی فروخت کرے گا۔ یہ کوئی حقیقی اور حقیقی عقد نہیں ہو گا بلکہ ایک وعدہ ہو گا جو وعدہ کرنے والے پر لازم ہو گا۔^(۱۵۲) تاہم جدید محققین نے اس سے ملتی جلتی ایک نئی مالیاتی پروڈکٹ تجویز کی ہے جسے انھوں نے ” وعدان کی بنیاد پر کرنیوں کا فارورڈ معاملہ ” کا نام دیا ہے جس میں ہر فریق ایک دوسرے کو یہ طرفہ وعدہ کرتا ہے اور یہ وعدے ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں۔ فریقین کی جانب سے وعدہ ہونے کی وجہ سے اسے ” وعدان ” کا نام دیا جاتا ہے۔

یہ ایک حیران کن بات ہے کہ ایک ہی معاملے میں فریقین ایک دوسرے کو وعدہ کریں اور وہ دونوں وعدے یہ طرفہ ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ لہذا یہ مواعده کی صورت بنتی ہے کہ جس میں فریقین ایک دوسرے کو وعدہ کرتے ہیں اور دونوں پر وعدے کا ایسا لازم ہوتا ہے اور وعدان کی صورت میں بھی فریقین پر اپنے وعدے کو پورا کرنا لازم قرار دیا جاتا ہے۔ وعدان تو معروف شکل میں مواعده ہی نظر آتا ہے۔ اس طرح المعروف کالمشروط کے تحت وعدان پر ایک مکمل عقد کے احکام کا اطلاق ہونا چاہیے، کیوں کہ مواعده ایک عقد کی حیثیت رکھتا ہے جس کے ساتھ کرنیوں کے تبادلے کا عقد (بیع صرف) مل جاتا ہے اور اس طرح ایک ساتھ دو عقود ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ ناجائز قرار پاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل^(۱۵۳) (ابن مسند میں روایت کرتے ہیں: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَمْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ) (حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت

بنتی ہے۔ زید کا بیک سے یہ معاملہ کرنیوں کا فارورڈ / مستقبلی معاملہ کہلاتا ہے۔ یہ معاملہ غرر کی بدولت ناجائز ہے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ معاملہ کرتے وقت عوامیں پر قبضہ بھی نہیں ہوا تھا، حالاں کہ کرنیوں کی خرید و فروخت بیع صرف کے اصولوں کے تحت ہوتی جس میں عوامیں پر قبضہ مجلس عقد میں ہی لازمی ہوتا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ کریں:

[<http://www.investopedia.com/exam-guide/cfa-level-1/derivatives/currency-forward-contracts.asp>]

- ۱۵۲ - محمد ایوب، اسلامی مالیات (اسلام آباد: رفاه سٹریٹ آف اسلام بربنس، رفاه ایٹر نیشنل یونیورسٹی، ۲۰۱۰ء)، ۳۹۶ء۔

- ۱۵۳ - مسند احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، رقم: ۳۷۸۳۔

عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودے میں دوسو دے کرنے سے منع فرمایا۔ امام ابو بکر احمد البزار رضي الله عنه (۵۲۹۲)،^(۱۵۳) اور امام ابو سعید الشاشی رضي الله عنه (۵۳۳۵)^(۱۵۴) نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ نیز فقہانے فارورڈ مارکیٹ میں کرنیسوں کے لین دین کے شرعی طریقے کی بھی صورت بتائی ہے کہ وعدہ صرف ایک فریق (خریدار یا بائع) کی طرف سے کیا جائے گا تاکہ یہ کسی مکمل عقد کی صورت نہ بنے، لیکن یہاں عقدِ موادعہ کی صورت بنتی ہے جس میں عوضین کی حوالگی مستقبل کی طے شدہ تاریخ تک مؤخر ہوتی ہے حالانکہ بیچ صرف کے شرعاً درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مجلس عقد میں کسی فریق کی جانب سے ایک صرف کے علاوہ کسی بھی عقد کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مجلس عقد میں کسی فریق کی جانب سے ایک عوض پر قبضہ لازمی ہو جائے۔ چوں کہ یہاں عوضین تو دور ایک عوض پر بھی قبضہ نہیں ہوتا اس لیے یہ معاملہ شرعی اصولوں پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے ناجائز قرار پاتا ہے۔ اس عدم جواز سے بچنے کے لیے جدید محققین شرعی حاجت کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ فی زمانہ فارورڈ مارکیٹ میں یہ لین دین بین الاقوامی تجارت کے لیے حاجت عامہ بن چکی ہے۔ نیز ان کے نزدیک یہ پروٹوکٹ کرنیسوں کے تبادلے کے روایتی ناجائز عقود سے بچنے کے لیے مخارج (۱۵۵)^(۱۵۵) کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔^(۱۵۶)

حاجت کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس معاملے کی ممانعت پر کوئی نص واردنہ ہو لیکن وعدان پراؤ کٹ کے جواز میں صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ کی مانع نص موجود ہے، نیز حاجت اُس وقت مؤثر ہوتی ہے جب کوئی دوسرا راستہ موجود نہ ہو، جب کہ کرنیسوں کے فارورڈ معابدوں سے متعلق مجمع الفقه الاسلامی، آئی اوپنی شریعہ

- ۱۵۳ - ابو بکر احمد بن عمرو البزار، مسنند البزار (مدینہ منورہ: مکتبۃ العلوم والحكم، ۲۰۰۹ء)، مسنند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رقم: ۷۲۰۔

- ۱۵۴ - ابو سعید الشاشی، المسنند للشاشی (مدینہ منورہ: مکتبۃ العلوم والحكم، ۱۴۱۰ھ)، رقم: ۲۹۱۔

- ۱۵۵ - حرام سے بچنے کے لیے جو طریقے استعمال کیے جائیں وہ مخارج کہلاتے ہیں۔ ابن القیم، إعلام الموقعين، ۱۳۹۳، ۳۔

157- Ahmad, Azlin Alisa, Salmy Edawati Yaacob & Mat Noor Mat Zain (2014), " The Use of Wā'dān in Islamic Contract FX Forward: Weighting between Maṣlahah and Mafsadah", Asian Social Science; Vol. 10, No. 22; 2014, p: 332-342 & Aznan Hasan (2008). Wa`ad, Wa`dan dan Muwa`adah. A Pengertian Presented at Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara Kali Ke-2, anjuran Bank Negara Malaysia. 27-28 Februari 2008. Kuala Lumpur.

سٹینڈرڈ جیسے اداروں نے ایسے اصول و ضوابط وضع کر دیے ہیں۔^(۱۵۸) جن کے تحت یہ معاملہ شرعی طریقے سے مکمل ہو جاتا ہے۔ نیز ایسی پروڈکٹ مخراج کی بجائے سود کا حیلہ بننے کا زیادہ امکان رکھتی ہیں۔

کرنی سلم

کرنی سلم کے معاملے کو بھی حاجت کے قاعدے کے تحت جائز قرار دینا حاجت کا بے جا استعمال ہے۔ کرنی سلم یہ ہے کہ درآمد کنندہ کا بینک برآمد کنندہ کے لیے ایک لیٹر آف کریڈٹ^(۱۵۹) جاری کرتا ہے، جس کا مقصد برآمد کنندہ کو یہ یقین دلانا ہوتا ہے کہ یہ بینک مقررہ وقت پر مقررہ رقم مثلاً ایک ہزار ڈالر کی ادائیگی کا ضامن ہو گا۔ لیٹر آف کریڈٹ ملنے کے بعد برآمد کنندہ کا بینک اُسے اطلاع دیتا ہے۔ چوں کہ برآمد کنندہ کو رقم وصول کرنے کی جلدی ہوتی ہے وہ چند ماہ انتظار نہیں کرتا، اس لیے وہ اپنا لیٹر آف کریڈٹ روایتی بینک میں جمع کرتا ہے۔ روایتی بینک لیٹر آف کریڈٹ کو ڈسکاؤنٹ کر کے ایک ہزار ڈالر سے کچھ کم مثلاً ۹۰۰۰ ڈالر دے دیتا ہے۔ چوں کہ اسلام میں ایسی ڈسکاؤنٹ حرام ہے اس لیے اسلامی بینک برآمد کنندہ کو کرنی سلم کی صورت میں درج ذیل متبادل حل دیتا ہے۔ برآمد کنندہ اسلامی بینک کو درخواست دیتا ہے کہ اُس کے پاس لیٹر آف کریڈٹ ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اتنی مدت بعد اُسے ایک ہزار ڈالر ملیں گے، لیکن اُسے رقم ابھی چاہیے۔ اسلامی بینک اُسے کرنی سلم کے ذریعے رقم فراہم کرنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ درخواست کی منظوری کے بعد اسلامی بینک کی شرائط کو تسلیم کرتے ہوئے برآمد کنندہ کرنی سلم کے معابدے پر دستخط کرتا ہے اور طے یہ پاتا ہے کہ آج کے موجودہ ریٹ (مثلاً ایک سوروپے کا ایک ڈالر) کے مطابق ایک ہزار ڈالر کی قیمت ایک لاکھ روپے آج دے دے گا اور مستقبل میں اگر تو ڈالر کا ریٹ یہی ہو ایسا سے زیادہ ہو تو وہ اسلامی بینک کا ہو گا لیکن اگر ریٹ موجودہ سے کم ہو تو برآمد کنندہ وہ کمی پوری کرے گا۔ برآمد کنندہ اس پر راضی ہو جاتا ہے اور لیٹر آف کریڈٹ متعلقہ اسلامی بینک کی برائی میں جمع کرواتا ہے۔ اسلامی بینک کا تجارت کا شعبہ (Trade Department) ان دستاویزات کی جانچ پڑھتال کے بعد ٹریشری

-۱۵۸- المعايير الشرعية، معيار نمبر:، المتاجرة في العملات [یہ معايير کرنی سیوں کی خرید و فروخت سے متعلق ہے]۔

-۱۵۹- لیٹر آف کریڈٹ ایک دستاویز ہوتی ہے جو درآمد کنندہ (مشتری) کے بینک کی طرف سے درآمد کنندہ (بائع) کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے بھیجی جاتی ہے کہ وہ مشتری کو اپنا مال بیچ دے۔ جیسے ہی مشتری جانچ پڑھتال کے بعد اس مال پر قبضہ کرے گا، تو اس کا بینک بائع کو اُس کی قیمت ادا کرے گا۔ اس دستاویز پر مال کی قیمت، کرنی کا نام، رقم ملنے کی تاریخ سب کچھ درج ہوتا ہے۔

سے زرمبادلہ کی شرح معلوم کرتا ہے۔ بینک برآمد کنندہ کو ملکی کرنی دے دیتا ہے اور سیکورٹی کے طور پر لیٹر آف کریڈٹ اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ ڈالر کے وصول ہونے پر بینک کا ٹریزیری شعبہ بینک کی متعلقہ برائج اور برآمد کنندہ کو ڈالرز کی وصولی کی اطلاع دیتا ہے۔ ڈالر کی وصولی کے وقت اگر ریٹ ادا کیے گئے ریٹ سے کم ہو تو برآمد کنندہ اس رقم کو اپنے پاس سے پورا کرے گا۔ جس کے لیے بینک بازار زر سے گاہک کی جانب سے بطور وکیل مطلوبہ ڈالر خریدے گا۔ درآمد کنندہ کے بنک کی طرف سے رقم کی ترسیل میں تاخیر کی صورت میں اس کا ذمہ دار برآمد کنندہ ہو گا اور اسلامی بینک کو مقررہ وقت پر طے شدہ غیر ملکی کرنی پہنچانے کی ذمہ داری بھی برآمد کنندہ کی ہو گی۔

کرنی سلم کے اس معاملے کو اگر مقاصد شریعت کی روشنی میں بنظر غائزہ دیکھا جائے تو یہ کسی طور بھی جائز معلوم نہیں ہوتا کیوں کہ ربا الفضل وال حدیث میں سونے چاندی کی باہم تبادلے میں نقد و نقد کی شرط اس لیے لگائی گئی تھی^(۱۶۰) کہ بعد میں قیتوں کے فطری اتار چڑھاو کی وجہ سے فریقین میں بھگڑا پیدا ہو اور اگر باہمی رضامندی ہو بھی جائے تو پھر بھی اس پر ربانیسیہ کا امکان تھا جس کی حرمت قطعی ہے اور قرآن سے ثابت ہے۔ نیز فقہاء اس معاملے کو اس لیے بھی ناجائز قرار دیتے ہیں کہ کرنیوں کے تبادلے پر بیع صرف کا اطلاق ہوتا ہے اور جن اشیا پر بیع صرف کا اطلاق ہوتا ہے، وہ اشیا مسلم فیہ نہیں بن سکتیں، کیوں کہ بیع صرف میں عوضیں پر تقسیم مجلس عقد میں ہی ضروری ہوتا ہے، ورنہ ربا الفضل کے ضمن میں نیسیہ (ادھار) کی وجہ سے عقد ناجائز ہو جاتا ہے، جب کہ سلم میں تو بیع مؤجل ہوتی ہے، اس لیے کرنی سلم میں ربا الفضل کا عنصر پایا جاتا ہے۔

ربا الفضل کو سد ذرائع کے طور پر حرام کیا گیا تھا کیوں کہ وہ ربانیسیہ کا موجب بن رہا تھا۔ اس تناظر میں کرنی سلم کا عقد حرام لغیرہ بتتا ہے کیوں کہ سلم بذات خود ایک جائز عقد ہے جو ایک امر خارج (ربا الفضل) کی وجہ سے ناجائز ہو جاتا ہے۔ لہذا کرنی سلم میں اگر تو حاجت کے تحقیق کا کوئی سبب پایا گیا تو رخصت دی جاسکتی ہے لیکن کیا اسلامی بینکوں میں اس درجے کی حاجت تحقیق ہوتی ہے؟ نیز حاجت اُس وقت موثر ہوتی ہے جب کوئی دوسرا طریقہ موجود نہ ہو۔ لیکن یہاں جس حاجت کی بنیاد پر کرنی سلم کو جائز قرار دیا جاتا ہے، وہ حاجت دوسرے طریقوں سے بھی پوری ہو جاتی ہے، جیسے قرض حصہ۔ اس لیے کرنی سلم میں حاجت موثر نہیں رہتی۔

۱۶۰۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: الْذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفَضَّةُ بِالْفَضَّةِ، وَالْبُرْ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالثَّمُرُ بِالثَّمُرِ، وَالملْحُ بِالملْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَأَئَمَّ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبَيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (صحیح مسلم، کتاب الطلاق، باب الصرف و بيع الذهب بالورق نقدا (بیروت: دار إحياء التراث العربي)، رقم: ۱۵۸۷)۔

نتیجہ بحث

جب انسان ہو اے نفس کا شکار ہو تو اُس کی اعلیٰ اخلاقی اقدار بتدریج گرتی چلی جاتی ہیں۔ موجودہ زمانے کا سرمایہ دارانہ معاشری و مالیاتی نظام انسان کے لیے ملک الموت سے کم نہیں ہے۔ اس لیے فی الواقع یہ لازمی ہے کہ اسلامی مالیاتی نظام کو مضبوط بنایا جائے اور یہ صرف اُسی وقت ممکن ہے، جب یہ نظام مکمل طور پر شریعتِ اسلامیہ کے اصول و ضوابط کے مطابق شریعت کے مقاصد کی نگہبانی کرے گا۔ صحیح معنوں میں اسلامی بینکاری کی ترویج اور اس کا دوام صرف اسی وقت ہی ممکن ہو سکے گا جب مقاصدِ شریعت کو ہو اے انسانی کے برخلاف انھی اصولوں پر سمجھا جائے گا جو کہ شریعتِ اسلامیہ نے وضع کر دیے ہیں۔ اسلامی بینکوں کی مندرجہ بالا پروٹوکٹ پر بحث کے بعد یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ ایسی پروٹوکٹ جن میں اگر رخصت کی ضرورت پڑے تو ضرورت و حاجت کے قواعد کے استعمال میں اُن اصول و ضوابط میں تسابل برتا جاتا ہے جو فقهاءِ اسلام نے متعین کیے ہیں۔ ایسے میں جہاں پروٹوکٹ کی ترکیب میں کردار ادا کرنے والے افراد کی فقہی بنیادوں پر خواطرِ خواہ تربیت کی ضرورت ہے وہیں اسلامی بینکوں کے شریعہ ایڈواائزرز کی تربیت سے بھی صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ اسلامی بینکوں کے شریعہ ایڈواائزرز کی تربیت کے حوالے سے اس بات کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے کہ شرعی تعلیم کے ساتھ وہ جدید معاشری اور مالیاتی نظام کی باقاعدہ ڈگری لیوں کی تعلیم بھی رکھتا ہو۔ جدید معاشری اور مالیاتی معاملات کی صرف سمجھ بوجھ کا ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا کیوں کہ اس بارے میں کچھ نہ کچھ سمجھوتا ہو جاتا ہے اور یہ سمجھوتا پروٹوکٹس کے اسلامی اصولوں کے موافق ہونے کے متعلق اسلامی بینکوں اور شریعہ ایڈواائزرز کے کردار پر سوالیہ نشان بنتا ہے۔

مندرجہ بالا اسلامی مالیاتی پروٹوکٹ کا تنقیدی جائزہ لینے کے بعد یہ شکوک کسی حد تک قوی ہو جاتے ہیں کہ رخصت کے حصول کے لیے مقاصدِ شریعت کی آڑ میں ضرورت و حاجت کے شرعی اصولوں کی خواطرِ خواہ پاس داری نہیں کی گئی۔ اس ضمن میں محققین، ناقدین، اسلامی بینکوں کے شریعہ ایڈواائزرز، اسلامی بینک، دیگر مالیاتی ادارے کے لیے بالعموم اور مرکزی بینک کے لیے بالخصوص ضروری ہے کہ وہ اسلامی مالیاتی اشیاء خدمات پر ضرورت و حاجت کا اطلاق کرنے سے پہلے اچھی طرح چھان پھٹک کر لیں کہ کہیں ان قواعد و ضوابط کا بے جا استعمال تو نہیں کیا جا رہا اور اس بارے میں اگر متعلقہ اسلامی مالیاتی ادارے کے شریعہ بورڈ کے علاوہ کسی بیرونی اسلامی مالیاتی ادارے کے شریعہ بورڈ کی رائے بھی لی جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ مبادا موجودہ طرزِ عمل اسلامی مالیاتی انڈسٹری کے لیے طویل عرصے کے تناظر میں ناقابل تلافی نقصان کا باعث بنے گا۔

